

# آثار قیامت

اور

## فتنہ دجال کی حقیقت

### قرآن و حدیث کی روشنی میں

تألیف  
عمدة المفسرین سنا الحیثین حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی

ترجمہ  
مولانا محمد اسلم لاهور

[www.besturdubooks.wordpress.com](http://www.besturdubooks.wordpress.com)

پوسٹ بکس  
عمومی خدمت  
لاہور پاکستان

عمومی لکچرنز

عمدة المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے  
آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ سے مع اسناد تحریر شدہ ”قیامت نامہ“ کا ترجمہ

# آثار قیامت

اور

## فتنہ و جال کی حقیقت

قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مستند تحریر  
اور منکرین حدیث کے کچھ شہادت کا ازالہ

ترجمہ و ترتیب

مولانا حافظ محمد اسلم زاہد

فاضل وفاق المدارس پاکستان، و جامعہ اشرفیہ، لاہور

عمر پبلیکیشنز

یوسف مارکیٹ، 38- اردو بازار، لاہور۔ فون: 7356963

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

U/0099/11-05-S/R

آثار قیامت و فتنہ دجال کی حقیقت	:	نام کتاب
حضرت مولانا شاہ رفیع الدین ضیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	:	از
مولانا حافظ محمد اسلم زاہد	:	جمع و ترتیب
حافظ محمد احمد چوہدری	:	باہتمام
نومبر 2005ء	:	اشاعت
چوہدری پریس	:	پرنٹرز
عمر پبلی کیشنز یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ	:	ناشر
38- اردو بازار لاہور فون: 7356963	:	
140:00 روپے	:	قیمت

ضروری گزارش: ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی کتب میں عمداً غلطی کا تصور نہیں کر سکتے۔ تاہم انسان، انسان ہے، سہواً اگر کوئی غلطی ہوگئی ہو تو ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں تصحیح ہو سکے۔ (ادارہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ مُنِيبٌ مُبِينٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ مُنِيبٌ مُبِينٌ

## انتساب

قرب قیامت میں انڈیا سے برس پر پیکار ہونے والے  
ان مجاہدین اسلام کے نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
کی آمد پر ان سے ملک شام میں ملیں گے  
اور دجال ملعون اور اس کی چال بازیوں کو  
صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے عہد وفا کریں گے  
اور ان سرفروشان اسلام کے نام  
جنہیں یہ انتظار ہے کہ کب  
آواز آئے اور ہم  
جان مال اور وقت محمد عربی ﷺ کے دین کے وقف  
کر کے تمام دجالی جالوں اور زنجیروں کو توڑ ڈالیں۔



## ﴿آثار قیامت﴾

## فہرست مضامین (حصہ اول)

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۸	یمن، مکہ اور مدینہ میں	۱۱	عرض ناشر
۲۹	دجال سے ایک عالم دین کا مناظرہ	۱۳	قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں
۳۱	نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام	۱۵	قیامت کی چھوٹی نشانیاں
۳۲	دجال کا فرار اور قتل	۱۶	دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ
۳۳	قرب قیامت کے شب و روز	۱۸	سادات کا قاتل
۳۳	دعوت الی اللہ کی طرف	۱۸	بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا
۳۳	وصال مہدیؑ و کمال عیسیٰ	۱۹	امام مہدی علیہ السلام کی تلاش
	<u>خروج یا جوج و ماجوج ۳۵</u>		<u>قیامت کی بڑی نشانیاں</u>
۳۷	یا جوج ماجوج کی ہلاکت	۲۰	حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں
۳۷	خوشحالی و امن کا دور پھر سے		سادات کے قاتل امام مہدیؑ کے
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور	۲۱	مقابلے میں
۳۸	آپ کے خلیفہ	۲۱	صلیب کے پیچاریوں کا اتحاد
۳۹	دھوکے کا عذاب اور باب توبہ کا بند ہونا	۲۲	امام مہدی علیہ السلام کا جہاد
۴۰	صفا پہاڑی سے بات کرنے والا جانور نکلے گا	۲۲	دوسرے دن پھر معرکہ آرائی
۴۱	اہل ایمان کے جانے کے بعد۔۔۔	۲۳	اسلام اور صلیب کا تیسرا معرکہ
۴۲	ایک آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی	۲۳	چوتھا معرکہ اور اسلام کی فتح
۴۲	جب وقت ختم ہوگا۔۔۔	۲۳	نفاذ اسلام اور قسطنطنیہ کی فتح
۴۳	جب شیطان کی موت واقع ہوگی	۲۳	دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی
۴۵	روحیں اپنے جسموں میں۔۔۔		<u>ظہور دجال اور اسکے مختلف دعاوی ۲۶</u>
۴۶	سب سے پہلے کون اور پھر کون اٹھے گا؟	۲۷	دجال کی شعبہ بازیاں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۷۲	بھوک کا عذاب اور کھانے کی سزا	۴۷	ہولناکی کا عالم کیا ہوگا؟
۷۲	داروغہ جہنم سے درخواست ---	۴۸	سب امتیں نبیوں کے پاس
۷۳	اہل ایمان کیلئے قسم قسم کے اعزازات اور	۴۸	اولاد آدم، آدم علیہ السلام کے قدموں میں
۷۳	اہل کفر و فسق کی پکڑ	۴۹	حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں
۷۳	حق کو پھلانے والے	۵۰	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں
۷۳	راتوں کو جاگنے والے "سادات الناس"	۵۱	تین واقعات، شبہات اور ان کے جوابات
۷۳	"اشرف الناس" تعریف و حمد الہی	۵۱	☆ پہلا واقعہ
۷۳	کرنے والے	۵۱	☆ دوسرا واقعہ
۷۳	ہر عمل کے لحاظ سے لوگوں کی تقسیم	۵۳	☆ تیسرا واقعہ
۷۳	سود خوروں، زکوٰۃ نہ دینے والوں اور	۵۳	کلیم، خدا کی بارگاہ میں
۷۵	جھوٹوں کا عذاب	۵۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
۷۶	اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرمائیں گے	۵۵	سیدنا محمد کریم ﷺ کے مقام محمود میں
۷۷	حساب کتاب کا ایک منظر	۵۶	جب آپ ﷺ سربمجد ہوں گے
۷۷	تو بھی جا اور اسے بھی لیتا جا	۵۸	تجلیات ربانی ظاہر ہوتی ہیں
۷۸	ترازو سے اعمال تولے جائیں گے	۵۹	سات قسم کے لوگ عرش الہی کے نیچے
۷۸	ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگا اور روشنی	۶۰	اللہ تعالیٰ کا بندوں سے خطاب
۷۹	بقدر اعمال ہوگی	۶۱	اعمال اپنی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں
۸۰	پل صراط پر حاضری اور فاطمہ بنت محمدؑ	۶۲	سوال و جواب کا سلسلہ اور گواہیاں
۸۰	کی سواری	۶۳	حضرت نوحؑ کی قوم پر امت محمدؐ کی گواہی
۸۱	منافقوں پر کیا گزرے گی جب پل صراط	۶۳	جنت و دوزخ کے مناظر
۸۱	پر ہوں گے؟	۶۷	دوزخ کے حالات
۸۳	جنت کے مناظر کا بیان	۶۸	ابلیس لعین کا دوزخ میں خطاب
۸۳	محمد عربیؐ جنت کھولیں گے اور امت کی سفارش	۶۹	دوزخ کی آگ اور جہنم کے طبقات
۸۳	کریں گے	۷۱	دوزخ میں جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا



صفحہ نمبر	مضامین
۸۸	جب موت کو موت آ جائے گی
۸۸	قرآن کریم میں جنت کی صفات
۹۰	جنت کے درخت، لباس اور زپور
۹۱	ازدواجی زندگی، سواریاں اور مکانات
۹۱	جنت کے پیارے پیارے نام
۹۳	اہل جنت کے قد و قامت اور خوبصورتی
۹۳	اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دربار عالی شان
۹۳	کانوں کی لذت کا سامان
۹۵	جنت میں خدمت گزار کیسے ہوں گے؟
۸۳	اہل جنت کو سفارش کی اجازت ہوگی
۸۴	صرف موحدین جنت میں
۸۵	مشرکوں اور موحدوں کا نزاع
۸۵	آخر میں جنت جانے والے
۸۶	اہل جنت کی باہمی محبت کی باتیں اور اندرونی مسرتوں کے احوال
۸۷	جب اہل جنت اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے

### فہرست آثار قیامت حصہ دوم

#### ﴿فتنہ دجال کی حقیقت﴾

صفحہ نمبر	مضامین
۱۰۱	یہ کتاب کیوں لکھی گئی۔۔۔
۱۰۸	فقہ اسلامی کے چار اصول
۱۰۹	قرآن کریم
۱۰۹	حدیث شریف
۱۱۱	اجماع امت اور قیاس
۱۱۳	دجال سے پناہ مانگنے کیلئے دعاء
۱۱۴	حضرت عیسیٰ اور دجال کونسا کونسا کہتے ہیں
۱۱۴	حضرت عیسیٰ کونسا کونسا کہنے کی وجہ
۱۱۵	زمانہ نبوت میں دجال کا عام تذکرہ
۱۱۶	زندگی کا عظیم فتنہ
۱۱۷	قرآن کریم اور دجال کا ذکر
۱۲۰	دجال کا ذکر قرآن کریم میں حرمتاً کیوں نہیں ہے؟
۱۲۱	حضرت عیسیٰ کی وفات پر غلط استدلال
۱۲۱	قرآن کریم کی رہنمائی
۱۲۲	صرافی و لغوی تحقیق
۱۲۳	دیگر آیات میں توفیٰ کے معنی
۱۲۴	اقوال مفسرین
۱۲۵	احادیث رسول میں قتل دجال کا ذکر
۱۲۸	نزول عیسیٰ اجماع امت
۱۳۱	وہ کتابیں جو نزول عیسیٰ و قتل دجال پر لکھی گئیں
۱۳۲	قتل دجال سے پہلے عیسیٰ کے اترنے کی جگہ
۱۳۳	نزول عیسیٰ کے وقت امام مہدی کی امامت
۱۳۵	وہ نماز فجر کے وقت اتریں گے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۵۲	حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد	۱۳۶	حضرت عیسیٰ سے پہلے مسلمانوں کا حال کیا ہوگا۔۔۔؟
۱۵۲	مہدی کا نام اور مدت خلافت	۱۳۶	خروج دجال کے وقت مسلمانوں کی خوراک
۱۵۳	وہ پوری دنیا کے حکمراں ہوں گے	۱۳۶	مجاہدین کی جماعت حضرت عیسیٰ کی خدمت میں
۱۵۵	وہ کشادہ اور روشن پیشانی والے ہوں گے	۱۳۷	کیا جہاد کا آغاز ہو چکا۔۔۔؟
۱۵۶	وہ سخی ہوں گے	۱۳۸	حضرت عیسیٰ کا نزول اور قتل دجال
۱۵۷	وہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد سے ہوں گے	۱۳۹	عیسیٰ کا دجال کے ساتھ سوال اور قتل کرنا
۱۵۸	روایات میں مطابقت	۱۴۱	دجال صرف چالیس روزہ سکے گا
۱۵۹	ایک ضروری انتباہ	۱۴۲	دجال کہاں قتل ہوگا۔۔۔؟
۱۶۰	مہدی کے بارے میں شیعہ عقیدہ	۱۴۲	حضرت عیسیٰ کا قتل دجال کیلئے تیار ہونا
۱۶۱	وہ فرنگی کینز کے بیٹے اور سامانِ امامت کے ساتھ غائب ہو گئے	۱۴۳	حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک
۱۶۱	حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عائشہؓ کو مزادیں گے	۱۴۳	قتل دجال کے بعد خلیفہ عیسیٰ کون ہوگا؟
۱۶۲	رسول اللہؐ بھی ان سے بیعت ہوں گے	۱۴۳	ختم نبوت کا سلسلہ برقرار رہے گا
۱۶۳	دجال کے تفصیلی حالات	۱۴۶	حضرت عیسیٰ شریعت محمدیؐ کے علمبردار
۱۶۳	ابن صیاد کون تھا۔۔۔؟	۱۴۶	وہ مجتہد ہوں گے
۱۶۵	قیامت سے پہلے تیس دجال پیدا ہوں گے	۱۴۶	چالیس سال تک اسلامی حکومت کریں گے
۱۶۶	دجال کے آنے سے پہلے تین سال	۱۴۷	اور وفات پائیں گے
۱۶۷	ہرنجی نے دجال سے ڈرایا ہے	۱۴۸	حضرت عیسیٰ حج اور عمرہ کریں گے
۱۶۹	ایک صحابی رسول کا دجال سے انٹرویو	۱۴۹	روضہ رسولؐ پر سلام کریں گے
۱۷۱	خروج دجال کی نشانیاں	۱۴۹	منکرین حیات کیا کریں گے
۱۷۲	دجال کی کہانی، اس کی اپنی زبانی	۱۵۰	حضرت عیسیٰ کے متعلق روایات کا خلاصہ
۱۷۲	آج کل دجال کا مقام کہاں ہے؟		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۳	ابن حزمؒ کا نقطہ نظر	۱۷۳	احادیث میں تطبیق
۱۹۵	دجالی کرشموں کی تعبیرات اور ایمانی تقاضہ ۱۹۵	۱۷۳	دجال کے ساتھی آج اور کل
۱۹۶	کیا تہذیب مغرب دجالیت کا نام ہے؟ ۱۹۶	۱۷۵	دجال کا حلیہ کیا ہوگا۔۔۔؟
۱۹۷	عمورتوں میں دجالی اثرات	۱۷۶	دجال کی آنکھیں کیسی ہوں گی۔۔۔؟
۱۹۷	خدائی دعویٰ کے مترادف دعاوی	۱۷۷	آنکھوں کے متعلق روایات میں تطبیق
۱۹۸	حقیقی دجال یا اس کے نشانات	۱۷۷	کیا دجال کا نا ہوگا۔۔۔؟
۱۹۹	یہ دجال کے راستوں کی ہمواری ہے	//	رفع تعارض کی ایک شکل
۲۰۰	تعلیم کے میدانوں میں دجالیت		اس کی چال اس کے بال اور قد کیسے
۲۰۲	دجالی فتنوں کا علاج اور اس کی مخالفت	۱۷۸	ہوں گے؟
۲۰۳	تصویر کا دوسرا رخ	۱۷۹	دجال کی سواری
۲۰۷	مدارس و مراکز دینیہ کی اہمیت	۱۷۹	دجال کی پیشانی کیسی ہوں گی؟
	مذہب سے خالی تعلیم جدید کا ایک عمومی	۱۸۰	دجال کے خروج کی مختصر کیفیت
۲۰۸	اثر اور دجالیت کی طرف ایک قدم		دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے
۲۱۰	دجال کے ماننے والے کون ہوں گے		والے خوارق
۲۱۲	ایمان کا ایک اور امتحان ”بھوک“	۱۸۲	معجزہ اور شعبہ بازی (استدراج)
۲۱۳	دجال سفر تیزی سے کرے گا	۱۸۳	میں فرق
۲۱۵	آواز دور تک پہنچا سکے گا	۱۸۳	دجال کے اختیارات
۲۱۶	زراعت میں ترقی نظر آئے گی	۱۸۶	شعبہ بازوں کا سردار
۲۱۷	مردوں کو ظاہر زندہ کرے گا	۱۸۸	دجال کی دو بڑی شعبہ بازیاں
۲۱۸	ایک عالم دین کی استقامت	۱۸۹	دجال شہادت سناے گا
	دجال مدینہ کے گرد و نواح میں	۱۹۰	عمورتوں کو زیادہ متاثر کرے گا
۲۲۰	آ کر ٹھہرے گا	۱۹۱	دجال کو کونسی چیز دجال بنائے گی۔۔۔؟
۲۲۱	مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرہ دیں گے	۱۹۳	علم وحی کے بغیر دیگر علوم خطرہ میں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## عرضِ ناشر

بڑے عرصے سے دل میں تمنا تھی کہ قیامت اور اس کے قریبی حالات پر ہم کوئی مستند کتاب تیار کروائیں الحمد للہ! ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھوں تک ایک ایسی تحریر پہنچا رہے ہیں جس کی صحت اور مستند ہونے کی دلیل میں خود مصنف کا نام نامی اسم گرامی ہی ہر ذی علم کے لئے کافی ہے۔ ہم نے اپنی خواہش کا اظہار ایک مدرس، صاحب قلم و دست مولانا محمد اسلم زاہد سے کیا تو انہوں نے خود ہی یہ تجویز دی کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ”قیامت نامہ“ کے ترجمے کو سلیس انداز میں پیش کر دیا جائے تو امید ہے آپ کی یہ نیک تمنا پوری ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے مولانا نور محمد صاحب کے قدیم ترجمہ ”قیامت نامہ“ کو جدید لباس میں بڑے احسن انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور اس کے عنوانات لگائے ہیں آیات و احادیث کی تخریج بھی کر دی ہے۔ ترجمہ کے دوران اسے عام فہم کرنے کے لئے جن جملوں کی انہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے ان جملوں کو بین القوسین لکھا ہے تاکہ اصل کتاب کا ترجمہ متاثر نہ ہو۔ جہاں اشد ضرورت محسوس کی وہاں تشریح کے عنوان سے کچھ عبارت کا اضافہ کیا ہے، جس سے بعض مشکل مقامات حل ہو گئے ہیں، اس کاوش سے یہ کتاب مزید خوبیوں کے ساتھ

آپ کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے دوسرے حصے کے طور پر کچھ تحقیقی مضامین کا اضافہ کیا ہے جس میں، نزول مسیح علیہ السلام، ظہور مہدی علیہ السلام، خروج دجال وغیرہ کے متعلق پائے جانے والے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے، جو اکثر منکرین حدیث کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں انداز یہ رکھا ہے کہ اس تحریر کو کسی کتاب کا جواب تصور نہ کیا جائے اور ہدایت کے طالب کے ذہن میں موجود تشویش کا ازالہ بھی ہو جائے۔ اس دوسرے حصے کا نام ”فتنہ دجال کی حقیقت“ ہے جس میں اس فتنے کے خدوخال اور منکرین حدیث کے اجاگر کئے ہوئے شبہات کا ازالہ ہے۔

قارئین سے دعاؤں کی درخواست: حضرت مصنف کے لئے مترجم و ناشر اور ان کے والدین اساتذہ کے لیے۔

والسلام

حافظ محمد احمد چوہدری

مدیر عمر پبلی کیشنز، لاہور

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

سب تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لئے ہیں اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ظاہری و باطنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی چیز ایمان ہے کہ رسالت مآب ﷺ پر ہم ایمان لائے اور آپ ﷺ نے ہمیں آخرت کے احوال مثلاً حشر، حساب، جنت، دوزخ وغیرہ سے آگاہ فرمایا اور آپ ﷺ نے ہمیں، وہاں بدبختی سے بچنے اور نیک بختی حاصل کرنے کے اسباب سے بھی مطلع فرمایا ہے اور ساتھ ہی ہمیں چھوٹی اور بڑی قیامت سے آگاہ فرمایا ہے۔ یہ فقیر رفیع الدین عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ خاندان تیمور کے اہل علم امراء کی مجلس میں جو میرے دل میں اللہ نے ڈالا وہ میں نے قیامت کے متعلق بیان کر دیا۔ بیان کے بعد سب حاضرین نے ان باتوں کو تحریر کرنے کا کہا۔ لہذا تحریر کر دیا گیا۔

## قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں

قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت خاتم النبیین ﷺ کا وجود مسعود اور آنحضرت ﷺ کی وفات (بھی قیامت کی ایک علامت) ہے۔

☆ کیونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت و رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی۔ اور آپ کی وفات (حسرت آیات) کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ منقطع

ہوا۔

- ☆ آنحضرت ﷺ پر ہی جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین فساد یوں سے پاک رکھی جائے۔
- ☆ آنحضرت ﷺ نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا۔ انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔
- ☆ پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت۔ جو آپ ﷺ کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔
- ☆ دوسری بڑی نشانیاں: جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے ”صور“ پھونکنے تک ظاہر ہوں گی اور قیامت کا آغاز ان ہی (واقعات کے بعد) ہوگا۔

## قیامت کی چھوٹی نشانیاں

قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

☆ جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں (یعنی اسے احکام شرعیہ کے مطابق خرچ نہ کریں) لوگ زکوٰۃ، تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں۔ شوہر اپنی بیوی کی (ہر ناجائز) بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں اور بڑے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے۔ ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں۔

☆ انتظامات، تالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔

☆ خدا کے نافرمانوں کی عزت، صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے۔

☆ شراب پینا عام ہو جائے۔

☆ ناچ گانے اور لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں۔

☆ زنا کاری کی کثرت ہو۔

☆ اُمت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ (آنحضرت ﷺ نے فرمایا

اے علی! جب یہ سب کام شروع ہو جائیں) تو اس وقت سرخ آندھی اور

عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے: زمین کا دھنسا،



آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی۔ جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔

(ترمذی باب علامات الساعة مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۸۷)

تشریح: قارئین! کیا محصول اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے۔ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی ناز برداریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا تالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا سٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئیں؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے، جس میں تصویریں، فی دی، وی سی آر نہیں ہیں۔

نام نہاد مسلمان پہلے لوگوں (صحابہؓ اور ائمہ دین) کو آج کا مسلمان بڑا بھلا نہیں کہہ رہا۔

## دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ

- ☆ قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی (یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی)
- ☆ علم (دین) سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔
- ☆ اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی۔
- ☆ مسجدوں میں کھیل کود ہوگا (جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں)۔
- ☆ ملتے وقت سلام (کے سنت عمل کی جگہ) گالی گلوچ ہوگا۔
- ☆ شریعت کے علوم (کا حصول) کم ہوگا۔
- ☆ جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی۔

☆ دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی۔

☆ فاسق لوگ (لوگوں کو بہکانے کے لئے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کیلئے) علم حاصل کریں گے۔

☆ شرم و حیا جاتی رہے گی۔

☆ چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔

تشریح: (جس طرح کہ افغانستان اور عراق کے لئے مسلمانوں پر امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے اور مسلسل پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے)۔

حدیث: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا: ایک زمانہ آئے گا، جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لئے، اس طرح مدعو کریں گے۔ جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لئے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں! بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہو گے، لیکن بالکل بے بنیاد جیسے (پانی کے) بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے (ہوتے ہیں) تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابیؓ نے عرض کیا ”حضور یہ سستی کیا چیز ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم دنیا کو دوست رکھو گے، (اس کی محبت میں) مرنے سے ڈرو گے۔“

(اس حدیث کو ابو داؤد، امام احمد اور بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا)۔

ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینے مشکل ہو جائے گی۔ باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی۔ جب (مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی) نشانیاں عام ہو جائیں گی تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔

## سادات کا قاتل

پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابوسفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، جو سیدزادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔

اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ..... اور دوسرے فرقہ سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آجائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ ”فرقہ دوم“ کی مدد سے اسلامی فوج ایک خونریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا:

”آج صلیب غالب ہوئی اسی کی برکت سے فتح نظر آئی“

یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک (باحثیت نوجوان) شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا نہیں!

”دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔“ (ابوداؤد)

## بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا

پھر (مسلمان اور یہ عیسائی) دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لئے پکاریں گے، جس کی وجہ سے (مسلمانوں اور عیسائیوں) میں خانہ جنگی کا منظر، پابا ہوگا۔ جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت (مدینہ منورہ کے قریب) خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے۔ تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔

## امام مہدی علیہ السلام کی تلاش

حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس خوف سے کہ مسلمان مجھ ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لئے چن لیں گے۔ اس لئے مکہ چلے جائیں گے۔ (الوداؤد)

اس زمانہ کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے (کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں) مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعویدار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام (خانہ کعبہ کے ایک کونے) رکن (یمانی اور) مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی۔

هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

ترجمہ: یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس کا حکم سنو اور مانو۔

اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص و عوام سن لیں گے۔

(اس عبارت میں ہے کہ جھوٹے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ہمارے سامنے ”حضرت امام مہدی“ نامی کتاب مولف مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ میں موجود ہے جس میں دلائل سے ۲۵ جھوٹے داعیان مہدیت کا مکمل تعارف ہے گویا یہ علامات بھی ظاہر ہو چکی ہے) حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

## قیامت کی بڑی نشانیاں

### علامات حضرت امام مہدی

ابوداؤد، مشکوٰۃ صفحہ ۴۰۱ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا، اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔

آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح کے ہوں گے۔

آپ کا اسم شریف ”محمد“ والد کا نام ”عبداللہ“ والدہ کا نام ”آمنہ“ ہوگا۔ زبان میں قدرے لکنت ہوگی۔ جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔

آپ کا ”علم لدنی“ ہوگا (یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے)

بیعت کے وقت عمر چالیس سال ہوگی، خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی (مسلمان) فوجیں آپ کے پاس ”مکہ مکرمہ“ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیائے کرام اور ابدال عظام آپ کے زیر سایہ آجائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی (اسلامی) فوج میں داخل ہو جائیں گے اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے جس کو ”رتاج الکعبہ“ کہا جاتا ہے۔ اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمادیں گے۔

ابوداؤد میں ہے کہ (امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے

کی) خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت ہی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد (کی سعادت کے حصول کے لیے) پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ ”منصور“ نامی ایک شخص کے زیرِ کمان ہوگا اور یہ لشکر (تاخت و تاراج کرتا ہوا) راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔

## سادات کے قاتل امام مہدی کے مقابلے میں

اس سے (پہلے ”سادات کا قاتل“ عنوان کے تحت) ایک شخص کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابوسفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔

وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ جس کی انھیال قوم ”بنو کلب“ ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لئے ایک فوج بھیجے گا جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے (کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آسکی اور سب دھنسا دیے گئے۔ البتہ) قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا مگر ان سے صرف دو آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو (اس دھنسنے والے واقعہ کی اطلاع دے گا)

## صلیب کے پجاریوں کا اتحاد

عرب فوجوں کے (حضرت امام مہدی کے ساتھ دینے کا حال سن کر) عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے

ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ (مسلم ص ۳۹۳)

اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ بارہ ہزار (۸۰۴۰۰۰۰۰) فوج ہوگی۔ (صحیح بخاری) اور حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پینچم صلی اللہ علیہ وسلم (کے روضہ کی) زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ (صحیح مسلم)

## امام مہدی علیہ السلام کا جہاد

دشمن کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کی فوج کے تین گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصاریٰ کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ (کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے)

(۲) باقی لوگوں میں سے (کچھ خوش نصیب) تو شہید ہو جائیں گے اور بدر واحد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے۔

(۳) اور کچھ (عیسائیوں کے مقابلہ میں ڈٹے رہیں گے، حتیٰ کہ) فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لئے گمراہی اور برے انجام کے اندیشہ سے چھٹکارا پالیں گے۔ (گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا)

## دوسرے دن پھر معرکہ آرائی

حضرت مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ (مسلم ص ۳۹۲)

پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔

## اسلام اور صلیب کا تیسرا معرکہ

تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ ”موت یا فتح“ کا عہد لئے میدان کارزار میں آئیں گے (آپ کے ساتھی) بڑی بہادری کے ساتھ (عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور) آرزوئے شہادت کو پالیں گے۔ شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام (بچی ہوئی) تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے۔

## چوتھا معرکہ اور اسلام کی فتح

چوتھے دن بھی (مجاہدین کی ایک) بڑی جماعت (موت یا فتح) کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی (تھوڑی سی) محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبرد آزما ہوں گے۔

اس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ (مسلم ۳۹۲)

عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بوجھی جاتی رہے گی اور بے سرو سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔

اس فتح کے دن حضرت مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہاء انعامات سے نوازیں گے لیکن (ان جانبازدوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے پلنے کی) انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی (اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ) اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے ایک فیصد آدمی بچا ہوگا۔



## نفاذ اسلام اور قسطنطنیہ کی فتح

بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے (اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے) چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لئے روانہ ہوں گے۔

صحیح مسلم ص ۳۹۶ میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے ستر ہزار بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں جب یہ مجاہدین فیصل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فیصل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔

تشریح: اس عبارت میں ہے کہ فیصل نعرہ تکبیر سے گر پڑے گی اس کا مفہوم یہ ہے (یعنی وہ فیصل مجاہدین کے حملوں سے ان کی ذرا بھی حفاظت نہ کرے گی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بالفرض اسے دیوار کے حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے، تو بھی کچھ بعید نہیں ہے)۔

## دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی

حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک سات سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۹۶)

امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔

اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرمائیں گے (لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے) اور دجال کے نکلنے کی خبر کی

تصدیق کے لئے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد پانچ یا نو سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں (اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ) وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔

تحقیق حال کے بعد (جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی) جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔

## ظہور دجال اور اس کے مختلف دعاوی

الصادق الامین

دجال یہودیوں میں سے ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔

(صحیح بخاری ص ۲۵۲، مسلم)

(صحیح بخاری ص ۱۰۵۵، مسلم)

دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی۔

گھونگر دار بال ہوں گے۔ سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔

سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا

دعویٰ کرے گا۔

(صحیح مسلم)

پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔

اصفہان میں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔ یہیں سے (مزید تکبر

میں مبتلا ہو کر) خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔

اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلاوائے گا۔

(صحیح مسلم)

اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لئے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر

الوقوع کام کروائیں گے۔

اس کی پیشانی پر (ک، ف، ر) لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کرے سکے

گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔

(بخاری ص ۱۰۵۶، مسلم ص ۳۰۰)

اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو ”دوزخ“ تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا

جس کا نام ”جنت“ ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں

ڈالے گا۔

(صحیح بخاری)

مگر وہ آگ درحقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ درحقیقت آگ کی طرح ہوگا

(یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لئے ہوگا)

اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا۔ جس کو چاہے گا اسے  
(خوش ہو کر دے گا)۔  
(صحیح بخاری و مسلم شریف)

جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو (اس کی سر زمین پر) اس کے لئے  
بارش ہوگی۔ اناج پیدا ہوگا۔ (ان کے) درخت پھل دینے لگیں گے۔ انکے مویشی  
موٹے ہو جائیں گے، اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے اور جب کوئی  
جماعت اسے نہ مانے گی اس سے (بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا)  
بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا۔

مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا  
کام دے گا۔  
(احمد، ابوداؤد)

تشریح: یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے  
دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا  
اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔

## دجال کی شعبدہ بازیاں

امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے دو سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا  
ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔

زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض  
آدمیوں سے کہے گا ”میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ  
کر میری خدائی کا یقین کر لو“۔

تشریح: یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں  
بنا کر نکلو۔ (تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں) چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ (اور کتنے ہی  
لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر (اس کو سچا مان لیں گے اور) گمراہ ہو جائیں گے۔  
لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے اس نے فرمایا ہے کہ یحییٰ ویمیت۔  
وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے فرمایا یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ہم ہی

انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔

جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا۔ دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے اور وہ ایمان داران تمام خلاف عادت کاموں کو شعبہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ ”دجال“ ہے۔ جس کے سب سے بڑے دھوکا باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے چکے ہیں۔ (۱۲)

### یمن، مکہ اور مدینہ میں

مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا (اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا) بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بدین (لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔

صحیح مسلم و بخاری میں ہے۔ یہاں سے لوٹ کر ”مکہ مکرمہ“ کے قریب مقیم ہوگا۔ لیکن وہاں فرشتوں کے حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ (بخاری، مسلم)

پھر وہاں سے ”مدینہ منورہ“ کا ارادہ کرے گا۔

صحیح بخاری ص ۲۵۳ میں ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے سات دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی حفاظت کے لئے خداوند کریم دو دو فرشتے فرمائے گا۔ جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بد عقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔

تشریح: (کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے وہاں ہوں ان کو مدینہ اور صاحب

مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی اس وجہ سے انہیں زلزلہ کے ذریعے ان پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پینہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں انہیں روضہ رسول ﷺ پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔

## دجال سے ایک عالم دین کا مناظرہ

(جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا) ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے (جو اس ملعون کو اپنے علم خدا داد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے) دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے ”دجال کہاں ہے؟“ وہ ان کی گفتگو کو (دجال کے) ادب کے خلاف سمجھیں گے۔ اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ”تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا (دجال) نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔“

چنانچہ وہ دجال سے جا کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے۔ جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے۔

”میں نے تجھے پہچان لیا تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی“

دجال غصہ میں آ کر کہے گا ”اس کو آرے سے چیر دو! (یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اور) اسی بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے (اور عبرت کے لیے) دائیں بائیں ڈال دیں گے۔“

پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا۔

”اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے۔“

وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کے خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل نہیں رکھتے۔ ہاں! (اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں) اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دنوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا۔

”اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔“

دجال جھنجھلا کر معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو! (یہ سن کر اس کے مریدین) آپ کی گردن پہ چھری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا مگر (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجزے کی طرح) وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد (دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور) کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے (ذلیل و رسوا ہو کر) ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ (مسلم ص ۳۰۲) اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لئے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔

## نزول سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لئے فوج کو ہدایات دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ ”مسلم یعنی سیرھی لے آؤ“ سیرھی حاضر کر دی جائے گی۔

آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے۔ ”یا نبی اللہ! امامت کیجئے“۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے۔

”امامت تمہیں کرو! اس لئے کہ تم میں سے بعض دوسروں کیلئے

امام ہیں اور اے امت محمدیہ! یہ (امامت کی عزت) اللہ تعالیٰ

نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔“

پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے۔

”یا نبی اللہ! اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے جس طرح

چاہیں اس (فریضہ جہاد) کو انجام دیں“

وہ فرمائیں گے نہیں! یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد ہے گا۔ میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کیلئے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا

(مسلم شریف)

ہے۔



## دجال کا فرار اور قتل!!!

رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (بھی ان کے ساتھ ہوں گے) وہ کہیں گے ”میرے لئے گھوڑا اور نیزہ لاؤ! تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں“۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر تاخت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے“۔

مسلم شریف ص ۴۰۰ پر ہے کہ:

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک (دجال) پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی اور جس کا فرنگ آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام ”لد“ تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔

(قارئین یاد رہے کہ شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ لُد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔)

کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں (پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس کی تصدیق فرمادی ہے اس لئے وہ) آپ نے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔

(صحیح مسلم واہن ماجہ)

ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔

(ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ) اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔

صحیح مسلم ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی (وہ درخت اور پتھر) کہے گا۔  
 ”اے خدا کے بندے! دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر! مگر غرقہ کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات کو چھپائے گا۔“

## قرب قیامت کے شب و روز

ترمذی ص ۳۲۵ پر ہے کہ دجال کے شر کا زمانہ چالیس دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ ایک مہینہ کے اور ایک، ایک ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔

بعض دنوں میں ہے یہ لے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے۔ کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔

صحابہ کرامؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھنی چاہئیں یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر ایک پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہئیں۔  
 شیخ محی الدین ابن عربی جو ارباب کشف و شہود متحققین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور رزق بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا تو لوگ شریعت کے مسئلہ کی رو سے اندازہ و تخمینہ سے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

## دعوت الی اللہ کی طرف

دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں (مسلمانوں کو ملنے جائیں گے) جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی اور وہاں پہنچ کر (یہ دونوں حضرات) دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ (مسلم ص ۴۰۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام (خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر) سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے۔ پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام سروئے زمین امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی۔ ظلم و نا انصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد سات سال (ابو داؤد) آٹھ سال (حاکم) یا نو سال (ترمذی) ہوگی۔

## وصال مہدی و کمال عیسیٰ علیہ السلام

واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو سات سال عیسائیوں کے فتنے کو (پامال کرنے) اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا اور آٹھواں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا اور نوواں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر ۴۹ سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔

اس کے بعد لوگوں (کی بھلائی) کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے (شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی سیرکت سے) ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔

## خروج یا جوج، ماجوج

صحیح مسلم ص ۴۰۱ پر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوگا؟  
 ”میں اپنے بندوں میں سے ایسے طاقتور بندوں کو ظاہر کرنے  
 والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو  
 آپ میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں  
 پناہ لے لیں“

(وحی الہی کے نزول کے بعد) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعہ میں  
 نزول فرما کر سامان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس دوران یا جوج  
 ماجوج دیوار سکندری توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ نڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیلے  
 (صرف وہی نظر آئیں گے)۔

تشریح: معالم التنزیل میں ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لئے لوگ قلعوں کا  
 رخ کریں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعوں میں وہ لوگ نہ گھس سکیں گے اسی وجہ  
 سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپنے کے علاوہ خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

(یہ لوگ) قتل و غارت گری سے کسی کو معاف نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافث بن  
 نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا ملک انتہائی بلاد شمال مشرق ہفت اقلیم  
 سے باہر ہے۔ ان کے شمال کی طرف دریائے شور ہے۔ جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا  
 ہونے کی وجہ سے گاڑھا اور جما ہوا ہے کہ اس میں جہاز کا چلانا ناممکن ہے ان کے  
 مشرقی و مغربی اطراف میں دو پہاڑ بالکل دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور  
 ان میں آمد و رفت کا سلسلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان  
 ایک گھاٹی تھی کہ جس میں یا جوج ماجوج ادھر آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔

(بخاری ص ۵۱۰)

ان لوگوں کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنا دی  
 جہاں سے یہ لوگ عبور کر کے نہ آسکیں۔

(ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ کا نام ہے۔ جس کا پایہ تخت یمن میں تھا۔ اس کی پیشانی کی دونوں جانبیں ابھری ہوئی تھیں اس لئے اسے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ الغرض اس کا گزرا دھر کو ہوا تو لوگوں نے یا جوج ماجوج کی نکالیف کی شکایت کی تو اس نے لوگوں کی حفاظت کے لئے) ایسی آہنی دیوار بنا ڈالی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی اور موٹائی ۶۰ گز ہے۔

(یا جوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے کے لئے) سارا دن اسے توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مگر رات کو خداوند کریم پھر اسے ویسا ہی کر دیتا ہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنا انگوٹھے اور کلمہ شہادت والی انگلی کا حلقہ بنانے سے بنتا ہے۔ مگر وہ سوراخ ابھی تک اس قدر نہیں ہے کہ اس سے آدمی نکل سکے (جب اللہ کو منظور ہوگا اور) ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔

مسلم ص ۴۰۲ پر ہے کہ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب ان کی جماعت کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ میں پہنچے گا اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گا۔

بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک چشمہ ہے جس کی شکل مربع ہے۔ اس کا پاٹ سات یا دس میل ہے۔ نہایت گہرا ہے۔ جب کچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو (دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے) کہے گی کہ شاید اس جگہ پانی ہوگا۔

(یہ لوگ) ظلم، قتل و قتال، پردہ روی عذاب دہی اور قید کر کے (لوگوں میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کریں گے) مسلم ص ۴۰۱ پر ہے کہ اسی طرح (لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے) جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے۔

”اب ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں“

یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ خداوند کریم اس تیر کو خون میں لت پت واپس فرمائے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے۔ اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔

## یا جوج ماجوج کی ہلاکت

اس فتنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگیِ معاش (کافیہ عالم ہوگا کہ) گائے کا کلمہ سوسو اشرفی کا ہو جائے گا۔

آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لئے کھڑے ہوں گے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ (اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے اس بیماری کو عربی میں نفث کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یا جوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام (جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہوں گے جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا تو) تحقیق حال کے لئے چند آدمیوں کو بیرونِ قلعہ بھیجیں گے اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی مکدر ہو رہی ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام (بارگاہِ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ) پھر سے دستِ بدعا ہو جائیں گے۔

تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لئے بڑی بابرکت بارش ہوگی۔ جو متواتر چالیس دن تک برے گی جس سے کوئی کچا دپکا مکان اور کوئی خیمہ و چھپر ٹپکے بغیر نہ رہ سکے گا۔

## خوشحالی و امن کا دور پھر سے

اس بارش کی وجہ سے پیدا اور نہایت ہی بابرکت اور با فراغت ہوگی۔ مسلم صفحہ ۴۰۲ میں ہے کہ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیرانا ج اور ایک گائے یا

بکری کا دودھ ایک خاندان کے لئے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے۔ (کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے)۔

روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا۔ کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا۔ (اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی) سب کے سب لوگ احسان و طاعت الہی میں مصروف رہیں گے۔ (لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے) اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی (ایک دوسرے کو اور) لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔

ترندی میں ہے کہ قوم یا جوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصہ تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ مذکورہ حالات (نیکی و تقویٰ، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں) مسلسل سات سال تک ترقی کی منازل طے کرتی رہیں گی لیکن باوجود اس کے کہ نیکی اور بھلائی بہت زیادہ ہوگی خواہشات نفسانی اپنا سر نکالیں گی (اور انسانوں کی ترقی کی راہیں مسدود کرنے کی کوششیں کریں گی) یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوں گے۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آپ کے خلیفہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام چالیس سال رہے گا۔ آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی۔ پھر انتقال فرما کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔

کتاب الوفاء ابن جوزی و مشکوٰۃ میں ہے کہ آپ کے بعد ملک یمن کے رہائشی ایک شخص آپ کے خلیفہ ہوں گے ان کا نام حجابہ ہوگا اور قبیلہ قحطان سے اس کا تعلق ہوگا۔ آپ کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت کو سرانجام دیں گے۔

مسلم شریف میں ہے کہ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے جن میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہوگا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔

## دھوئیں کا عذاب اور بابِ توبہ

صحیح مسلم میں ہے کہ انہیں دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے مسلمان تو صرف ضعف دماغ و کدورت حواس اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض ایک دن بعض دو بعض تین دن میں ہوش میں آئیں گے۔

(ابوداؤد ترمذی)

یہ دھواں چالیس دن تک مسلسل رہے گا۔ پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعدہ ماہ ذی الحجہ میں یومِ نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لئے بے قرار ہو جائیں گے۔

یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہ و زاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آخر کار تین چار راتوں کے اوقات کے بقدر اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا (اس کی شکل) چاند گرہن کی طرح ہوگی اور مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی توحید کا اعتراف کریں گے۔ مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج تھوڑی سی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا رہے گا۔



## صفا پہاڑی سے بات کرنے والا جانور نکلے گا

دوسرے دن اسی (سورج کے) تذکرہ میں ہوں گے کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا۔ جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا اس سے پہلے اس کے نکلنے کی دو مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ  
تَكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. (سورہ نمل)

ترجمہ: جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لئے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کہے گا لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔

شکل کے لحاظ سے یہ جانور مندرجہ سات جانوروں کے مشابہ ہوگا۔

- (۱) چہرہ آدمی جیسا ہوگا
- (۲) پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا
- (۳) گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا
- (۴) دم میں بیل کی طرح ہوگا
- (۵) سرین میں ہرن جیسا ہوگا
- (۶) سینگوں میں بارہ سنگا جیسا ہوگا
- (۷) اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا

وہ جانور (بولے گا اور گفتگو میں) نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔

تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا۔ جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔

اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی

ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا۔ جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے روی چھایا جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا اس جانور کا نام ”دلۃ الارض“ ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے اور دلۃ الارض کے ظہور سے صور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ ایک سو بیس سال ہوگا دلۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے ناقص فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔

ترذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور تسمہ پا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے جو (لوگوں کو ان کے) گھروں کے احوال بتائیں گے۔

## اہل ایمان کے جانے کے بعد۔۔۔

جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھالیا جائے گا۔

خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی۔ برسر راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے (صحیح مسلم) حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے قبیلے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قبیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وباء اور غارت گری کی آفتیں پے در پے نازل ہوں گی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جماع زیادہ ہوگا، اولاد کم۔ اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی نہ رہے گا۔ اس دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ (شام میں ارزانی کی وجہ سے) دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔

## ایک آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی

صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی۔ جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔

صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔

اس کے بعد کچھ (لوگوں کو اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور) لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام ہی میں رہیں گے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں۔

## جب وقت ختم ہوگا۔۔۔

اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ تین چار سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی کہ جمعہ کے دن جو محرم کی دسویں تاریخ بھی ہوگی صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی۔ یہی صورت پھونکنے کا ہوگا۔

ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ آواز ہے؟ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا۔  
قرآن کریم میں ہے:

وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. (بارہ عم)

”اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔“

اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ

ہے۔

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. (بارہ عم)

جس وقت وحشی جانور جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے۔  
(ترجمہ شاہ رفیع الدین)

زمین جا بجا شق ہو جائے گی۔ ارشاد ہے۔

وَتُنشَقُّ الْأَرْضُ. (القرآن)

سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے۔

ارشاد گرامی ہے:

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. (بارہ عم)

اور جب دریا بہہ چلیں۔ (ترجمہ شاہ عبدالقادر)

آگ بجھ جائے گی بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔

وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ. (بارہ عم)

اور جب پہاڑ اڑا دئے جائیں۔

گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگ

رہی ہوگی اور وہ آواز صورت سخت ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

## جب شیطان کی موت واقع ہوگی

جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا۔ مگر فرشتے اسے آگ کے گرزوں سے لوٹادیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں ان سب تکلیفوں کی مقدار اس اکیلے کو ملے گی۔

مسئل چھ ماہ تک صور پھونکا جاتا رہے گا اس صور کے پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا نہ ستارے رہیں گے۔ نہ پہاڑ رہیں گے نہ سمندر نہ کوئی چیز (الغرض) ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ مگر آٹھ چیزیں فنا نہ ہوں گی۔

اول عرش، دوم کرسی، سوم لوح، چہارم قلم، پنجم جنت، ششم صور، ہفتم دوزخ، ہشتم روحیں۔

لیکن روعوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ بعضوں کا قول ہے کہ یہ آٹھ چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لئے معدوم ہو جائیں گی۔

حاصل کلام یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ...؟

”کہاں ہیں حکومتوں کے دعویدار اور بادشاہ؟“

کس کے لئے آج کی سلطنت پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے۔

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

خدائے یکتا و قہار کے لئے ہے۔

پھر ایک وقت تک ذات واحد ہی رہے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد از سر نو پیدائش کا سلسلہ جاری کرے گا لیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا اسے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔

## روحیں اپنے جسموں میں۔۔۔

زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں درختوں اور پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہ ہوگا۔ اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو چاہے گا وہیں سے زندہ کرے گا۔ (زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ) پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کرے گا۔

اور ان کے دیگر اجزاء جسمانی کو اس ہڈی کے متصل رکھ دے گا۔ ریڑھ کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے تمام جسم کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔

تمام اجزاء جسمانی کو (اس ہڈی کے ساتھ) ترتیب دے کر گوشت پوست چڑھا کر جو صورت مناسب ہوگی عطا فرمائیں گے۔ جسمانی قالب کی تیاری کے بعد تمام روحیں صور میں داخل کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پوری طاقت سے پھونک دیں اور خداوند تعالیٰ فرمائیں گے۔

”قسم ہے میری عزت و جلال کی! کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے (حکم الہی سن کر تمام) روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں آجائیں گی جس طرح پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔“

صور اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جن میں سے روحیں پھونکنے پر پرندوں کی طرح نکل کر اپنے اپنے ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر صور پھونکا جائے گا۔ جس کی وجہ سے

زمین پھٹ کر لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے صور (کی آواز) کی طرف دوڑیں گے۔ یہ صور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں سخنہ معلق ہے۔ بدنوں میں روحوں کی آمد اور دوسرے صور کے پھونکنے میں چالیس سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ (بخاری)

قبروں سے لوگ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یعنی ننگے بدن بے ختنہ اور بغیر داڑھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ (القرآن)

صحیح بخاری و مسلم ص ۳۸۴ پر ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے ان کا ختنہ نہ ہوا ہوگا۔ داڑھیاں نہ ہوں گی صرف سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے۔ سب چھوٹے بڑے، گونگے بہرے لنگڑے اور کمزور سب کے سب درست اعضاء والے ہوں گے۔

سب سے پہلے کون اور پھر کون اٹھے گا۔۔۔؟

سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ سے انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء و صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگرے برآمد ہوں گے۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو بکر و عمرؓ آنحضرت ﷺ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دوسرے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی۔

## ہولناکی کا عالم کیا ہوگا؟

کوئی شخص کسی کی شرم گاہ کو نہ دیکھے گا۔ اگر دیکھے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا۔

(صحیح بخاری و مسلم ۳۸۴ ترمذی)

صحیح مسلم صفحہ ۳۸۴ میں ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا بس ایک میل پر ہے۔ آسمان کی طرف چپکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے عام مومنین کے ٹخنے پنڈلی، گھٹنے، زانو، کمر، سینہ اور گردن تک اعمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا۔

کفار منہ اور کانوں سے پسینہ میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔

دوسرے نبیوں کو بھی حوض دیے جائیں گے لیکن وہ اپنی لذت اور وسعت میں (آپ ﷺ کے حوض کوثر سے) کم ہوں گے۔

سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظرہ ہوں گے۔ ایک ہزار سال تک لوگ انہی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہوں گے اور سات گروہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تمام روایات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگ چالیس فرقوں پر مشتمل ہوں گے۔



## سب امتیں نبیوں کے پاس

اولاد آدم، آدم کے قدموں میں۔۔۔

صحاح ستہ میں ہے کہ پھر مجبور ہو کر لوگ شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ

”اے ابوالبشر! آپ ہی وہ شخص ہیں، جنہیں خدائے تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ اور (آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے) تمام چیزوں کے نام سکھائے۔“ (جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثنائیں دی ہیں) تو ہماری سفارش کر دیجیے!“ تاکہ باری تعالیٰ ہمیں ان مصائب سے نجات نصیب فرمائے۔“

آپ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہ تھے اور نہ آئندہ ایسے غضبناک ہوں گے۔ چونکہ مجھ سے ایک زبردست غلطی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا تھا:

وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

فَإِذْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. (الایة)

باوجود روکنے کے میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا۔ تو میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔

(سچی بات تو یہ ہے کہ) مجھ میں شفاعت کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو (میرا مشورہ یہ ہے کہ) تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ! اس لئے کہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں (سارے انسانوں کے طوفان نوح میں غرق ہونے کے بعد سب سے پہلے) انسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔

## حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں

تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے۔

”اے نوح! آپ ہی وہ پیغمبر ہیں۔ جنہیں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا۔ فرما کر اپنا شکر گزار بندہ ہونے کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ ہماری حالت زار کو دیکھ کر ہماری شفاعت فرمادیجئے۔“

آپ فرمائیں گے ”آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ ایسا کبھی نہ تھا اور مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ادب کا لحاظ نہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی کہ وہ غرق نہ ہو۔ میرا منہ نہیں ہے کہ سفارش کر سکوں۔“

سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، قرآن کریم میں اسے اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

وَنَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اِبْنِيۡ مِنْ اَهْلِيۡ وَاِنَّ

وَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيۡنَ (سورۃ ہود)

ترجمہ: (اس مشکل گھڑی میں) نوح (علیہ السلام) نے اپنے خدا کو پکارا کہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ (جو میرے اہل کو طوفان سے بچانے کی نسبت ہے) سچا ہے اور اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے۔

خدا نے نوح (علیہ السلام) کو جواب دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے افعال کر چکا ہے۔ تو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا، جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یہ میں تجھے اس لئے سمجھاتا ہوں کہ جاہل لوگوں کی طرح سے رشتہ کی

محبت میں آ کر کہیں تو خدا سے دور نہ جا پڑے (یعنی خدا کو نیکی کے سوا اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہے۔)

## سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں

(یہ عذر کر کے حضرت نوح علیہ السلام سب لوگوں کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے چنانچہ وہ فرمائیں گے) کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ سورہ نساء میں ہے:

وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا. (القرآن)

پس لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے (اے

ابراہیم علیہ السلام)

”خدا تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا خطاب نصیب فرمایا ہے اور آگ کو آپ کے واسطے ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا۔

فرمایا: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. (سورہ انبیاء)

اور پیغمبروں کا امام بنایا آپ ہماری سفارش کر دیجیے! تاکہ ان تکلیفوں سے رہائی مل جائے“ آپ فرمائیں گے (پہلی بات یہ ہے کہ) آج اللہ تعالیٰ نہایت غصے میں ہیں اور اتنا پر جلال کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ کبھی ایسا ہوگا۔

(اور دوسری بات یہ ہے کہ) میں تین مرتبہ ایسی باتیں کر چکا ہوں کہ جس میں جھوٹ کا وہم ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کی پکڑ سے ڈر رہا ہوں۔ اس لئے مجھ میں شفاعت کی ہمت نہیں ہے۔ وہ باتیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ ان کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ (وہ آگے آرہی ہیں)

اس حدیث کو منکرین حدیث نے اپنا نشانہ بنا کر حدیث مبارکہ کے تمام ذخائر کو غیر معتبر قرار دیا ہے حالانکہ ان واقعات میں سے دو کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور

منکرین حدیث قرآن کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں تو جو تاویل ان دونوں آیتوں میں کرتے ہیں وہی اس واقعے میں ہوگی جس کا ذکر حدیث میں ہے اس کے علاوہ عرب لفظ کذب سے جھوٹ ہی مراد نہیں لیتے بلکہ بظاہر خلاف واقعہ بات پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

## تین واقعات شبہات اور جوابات

پہلا واقعہ:

ایک مرتبہ آپ کی قوم نے عید والے دن عمدہ عمدہ کھانے پکائے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیے۔ پھر بت خانے کے دروازوں کو بند کر کے بڑی شان و شوکت سے عید منانے کے لئے میدان چلے گئے۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرما دیا کہ ”میری طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے“ یہ اول کلام ہے جس سے انہیں جھوٹ کا وہم ہوگا۔

قرآن کریم میں اس واقعہ کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

فَنظَرْنَا نَظْرَةً فِی السُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. (۲۳)

تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا میں بیمار ہوں۔۔۔

شبہ کا جواب:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شان نبوت کے پیش نظر اسے خلاف واقعہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ جھوٹ یہ بھی نہیں ہے کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی نظر میں تو بیمار ہی تھے کہ بت پرستی نہ کرنے والے کو وہ روحانی بیمار سمجھتے تھے۔

دوسرا واقعہ:

دوم یہ کہ جب قوم میدان مذکور میں چلی گئی تو آپ نے کلباڑا ہاتھ میں لے کر بت خانے کا تالہ کھول کر اندر داخل ہو کر بتوں سے کہنے لگے کہ یہ لذیذ نعمتیں کیوں نہیں کھاتے؟

جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو فرمانے لگے ”مجھ سے کیوں نہیں

بولتے؟؟؟

فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مِمَّا كَلُمْتُمْ لَا تَنْطِقُونَ. (۷۱ اب)

جب اس پر بھی وہ خاموش رہے تو آپ نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا مگر بڑے بت کو صرف ناک کان سے محروم کیا اور کلبھاڑ اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور دروازے کو بدستور تالا لگا کر گھر تشریف لے آئے۔

کفار جب میدان سے واپس آئے تو اس ماجرے کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور (اپنے معبودوں کے ساتھ اس سلوک کو رد رکھنے والے شخص کے) اس کام کو سر انجام دینے والے کی تلاش شروع کر دی۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (سورہ انبیاء)

ان میں سے بعض نے کہا:

سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُ هُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (سورہ انبیاء)

ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے  
ابراہیم کہا جاتا ہے۔

ان کے سردار کہنے لگے۔

فَأْتُوهُ عَلَى آغْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (سورہ انبیاء)

تو اسے سارے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔

جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے تشریف لے آئے، تو انہوں نے

کہا۔

أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ يَا إِبْرَاهِيمَ

اے ابراہیم! کیا بتوں کو توڑنے کا کام تو نے ہی کیا ہے؟

آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ.

بلکہ ان کے بڑے نے ہی ایسا کیا ہے۔ اگر یہ بات کر سکتے

ہیں، تو ان ہی سے پوچھ لیجیے؟ (سورہ انبیاء)

ذرا دیکھ تو سہی! کلباڑا اسی کے کاغذ پر تو رکھا ہے۔ اسی کو غصہ آیا ہے اور اس نے چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ (اس واقعہ پر شبہ پایا جاتا ہے)

شبہ کا جواب:

شان نبوت کے لائق یہی تھا لیکن درحقیقت یہ جھوٹ نہ تھا الزامی جواب تھا کہ دوسرے سے ایسی بات کرنا کہ وہ لا جواب ہو جائے، چنانچہ کافروں نے لا جواب ہو کر کہہ دیا کہ ہمارے یہ بت بول نہیں سکتے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ ہی تو کہا تھا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ کہ ان سے بڑے نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیمؑ بھی تو ان سے بڑے تھے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعہ میں دوسرے جھوٹ کا احتمال ہوا۔  
تیسرا واقعہ:

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے پاس ”حران“ تشریف لے گئے۔ چچا کی بیٹی سیدہ سارہ سے نکاح ہوا۔ حسب معمول دین ابراہیمی کی دعوت دی۔ بتوں کی مخالفت، سسرال کو برداشت نہ ہوئی تو حضرت ابراہیمؑ کے مخالف ہو گئے۔ ادھر آپ نے اللہ کے حکم سے مصر کا ارادہ فرمایا۔ مصر کے پاس سے گزرے معلوم ہوا کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ ہے۔ جو ہر خوبصورت عورت کو چھین لیتا ہے اس کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے کوئی اور وارث ہے تو اسے کچھ دولت وغیرہ دے کر عورت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بادشاہ کے کارندے وہاں آ پہنچے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔

”یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟“ سپاہوں نے کہا۔

”یہ میری بہن ہے“ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جرات سے جواب دیا۔

کیونکہ حضرت سارہؑ آپ کے چچا کی طرف سے آپ کی بہن تھیں۔ ادھر حفظ ماتقدم کے طور پر انہیں بھی سمجھا دیا کہ کوئی پوچھے تو میرے متعلق یہی کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ (یہاں پر چھوٹ کا شبہ بنا لیا جاتا ہے)

شبہ کا جواب:

قرآنی اصول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کیونکہ قرآن حکیم میں ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (سورہ حجرات)

سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بہر حال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس قول پر بھی خلاف واقعہ ہونے کا شبہ

تھا۔

مکمل واقعہ اس طرح ہے کہ ظالم بادشاہ کے سپاہی حضرت سارہ کو لے کر محل سراء کی طرف چلے اور بادشاہ کے محل میں جا بٹھایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی تسلی کا سامان یہ کیا کہ ان کے اور حضرت سارہ کے درمیان جتنے پردے تھے وہ ہٹتے جا رہے تھے ان کی آنکھوں سے ایک لمحہ کے لئے بھی حضرت سارہ اوجھل نہ ہوئی۔ بادشاہ محل میں آیا، تین مرتبہ ہاتھ بڑھایا۔ ہر مرتبہ اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ آخر سیدہ سارہ سے معافی اور دعا کی درخواست کی اور اللہ کے قہر سے نجات پائی۔ اپنی خفت مٹانے کے لئے سپاہیوں کو کہا ”اسے بحفاظت اسی مرد کے پاس چھوڑ آؤ۔ یہ عورت جادوگر معلوم ہوتی ہے۔“

خلیل اللہ اس واقعہ کی وجہ سے اس شہر سے دل برداشت ہو چکے تھے، سارہ کو لے کر شام روانہ ہو گئے اور وہیں رہنے لگ گئے۔

(یہ تین واقعات ہیں جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نسبت کریں گے اور سفارش سے معذرت کر دیں گے)۔

## کلیم، خدا کی بارگاہ میں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر سب لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گے اور بعد نیز عرض کریں گے۔

اے موسیٰ! آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن سے اللہ نے بغیر واسطہ کے کلام

فرمایا ہے اور آپ کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے توراۃ لکھ کر دی ہے۔ ہو سکتے ہیں آج ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو مخاطب ہو کر فرمائیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ بڑے غصہ میں ہیں کہ شاید کبھی بھی اتنے غضبناک نہ ہوئے ہوں۔ میرے ہاتھ سے ایک قطبی شخص قتل ہو چکا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھے اس کی پاداش میں نہ پکڑے۔ (یہ واقعہ بیسویں پارے میں آیت: وَذَخَلَّ الْمَدِينَةَ مِنْ فَوْكَاذَهُ مُوسَىٰ اَتَكَ)۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس

ہاں! تم ایسا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ! سب لوگ ادھر چلے جائیں گے اور دست بستہ عرض کریں گے۔

(۱) ”اے عیسیٰ! خدا نے آپ کو ”روح“ اور ”کلمہ“ کہا ہے۔

(۲) جبرئیل علیہ السلام سے آپ کی دوستی کر دی۔ (۳) آپ کو

اللہ تعالیٰ نے واضح معجزات عنایت فرمائے۔“

اگر آپ ہماری سفارش کر دیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نجات فرمادیں۔ وہ فرمائیں گے آج اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہیں مجھے تو ڈر ہے کہ میری باز پرس ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ میرے بعد میری امت نے کبھی تو مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا کبھی مجھے وہ خدا ہی کہنے لگ گئے۔

میری یہ رائے ہے کہ تم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔

## شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں

ان کے مشورے سے سب لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے اور عرض کریں

گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!

(۱) آپ محبوب خدا ہیں۔ (۲) خدا نے آپ کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کی

معافی دے دی۔ فرمایا: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (سورہ فتح)



میں معافی کا اعلان ہے۔ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں۔

(۳) اور آپ اللہ کے فضل کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہیں۔

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ. (سورہ احزاب)

(لیکن آپ اللہ کے رسول اور پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔)

اس کی رو سے آپ آخری نبی ہیں (ہم سب مل کر آپ کے پاس آئے ہیں)

اگر آپ نے ہمیں منفی جواب دیا، تو ہم کہاں جائیں گے؟

عرض ہے کہ آپ ہمارے لئے سفارش کر دیجیے! تاکہ بارگاہ الہی سے ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارے کا پروانہ مل جائے۔ آپ فرمائیں گے۔

”ہاں! اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی یہ مقام عزت نصیب فرمایا ہے کہ

میں تمہاری سفارش لے کر بارگاہ خداوندی میں جاسکوں۔“

(پھر لوگوں کی جان میں جان آئے گی)

ادھر سیدنا جبرئیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہو چکے ہوں گے، ہمارے نبی

علیہ السلام سوار ہو کر آسمان کی طرف چو پرواز ہوں گے۔ سب لوگوں کی نگاہیں آپ

کے روئے انور کی طرف ہوں گی کہ ایک دروازہ آسمان سے کھلے گا اس میں آپ

داخل ہو جائیں گے۔ اس نورانی اور کشادہ مکان کا نام ہی ”مقام محمود“ ہے۔ جس

کے بارے میں فرمایا ہے:

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا .

عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ (سورہ بنی اسرائیل)

جب لوگ آپ ﷺ کو اس نشان سے اس مکان میں داخل ہوتے دیکھیں گے،

تو سب کی زبانوں پر آنحضرت کی تعریف و توصیف کے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔

## آپ ﷺ سر بسجود ہوں گے

ادھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھکی الہی پر پڑے گی، تو آپ سر بسجود

ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ سات روز تک اپنی جبین نیاز بارگاہ خالق و مالک میں رکھے

رہیں گے۔ تب ارشاد الہی ہوگا۔

”اے محمد! سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنوں گا، جو مانگو گے دوں گا،

سفارش کرو گے، قبول ہوگی۔“

یہ سن کر شفیع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ جل و  
علیٰ کی حمد و ثنائیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو صیغ الہی اس شان کی ہوگی کہ اس  
سے پہلے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی ہوگی۔ پھر بارگاہ ایزدی میں عرض گزار  
ہوں گے۔

”اے اللہ! جبرائیل کے ذریعے آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔۔۔

اے محمد! جو تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ بس میں اس وعدہ کی وفا

چاہتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

”جبرائیل نے جو پیغام دیا وہ بے شک درست تھا۔ آج بے

شک میں تجھ کو خوش کروں گا اور تیری سفارش مانوں گا۔“

زمین کی طرف جاؤ میں بھی زمین پر جلوہ افروز ہونے والا ہوں۔ اپنے بندوں  
کا حساب لے کر اعمال کے مطابق انہیں جزا دوں گا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر محبوب  
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. (سورۃ الفجر)

تمہارا پروردگار جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے صف در صف ہوں  
گے۔

ادھر سارے انسان آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پوچھیں گے یا رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا نے ہمارے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟

آپ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ابھی جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ہر ایک کو  
اس کے اعمال کے بقدر بدلہ نصیب فرمائیں گے۔

ادھر یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ایک بہت بڑا نور نہایت ہولناک آواز کے

ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہوگا اور فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی۔ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے: کیا ہمارا پروردگار اسی روشنی میں ہے؟

فرشتے جواب دیں گے:

”اللہ کی ذات والا صفات اس سے کہیں برتر ہے۔ ہم تو آسمان دنیا کے فرشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے زمین کے دور ترین کناروں پر صف بستہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نور اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ نمودار ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس آسمانی روشنی کی طرف لگ جائیں گی۔ اب تو لوگ یقین کی کیفیت میں دریافت کریں گے۔ اے فرشتو! کیا ہمارا معبود برحق اسی نورانی تجلی میں ہے؟ وہ کہیں: خداوند قدوس اس سے کہیں زیادہ برتر ہے ہم تو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی پہلے فرشتوں کی طرح زمین کے دور کناروں پر صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔“

## تجلیاتِ ربانی ظاہر ہوتی ہیں

ارشادِ ربانی ہے:

وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي

الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ. (سورہ زمر)

اور صور پھونکا جائے گا، پس تمام آسمان اور زمین کے رہنے والے بے ہوش ہو جائیں گے، مگر وہ جس کو خدا چاہے (کہ بے ہوش نہ ہو)۔

اس ارشادِ الہی کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ صور پھونکیں۔ اس کی آواز ایسی ہوگی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش آٹھ فرشتوں کے کاندھوں پر نازل ہوگا اللہ فرماتے ہیں:

وَيَجْعَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً. (سورہ الحاقہ)

اسے بیت المقدس میں رکھ دیا جائے گا۔ آج اسی جگہ بیت المقدس میں صحرہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ عرش خداوندی کس انداز سے اترے گا اس کی کیفیت کس کو معلوم ہو سکے گی؟ کیونکہ اس وقت سب کے سب بے ہوش ہوں گے۔

## سات قسم کے لوگ عرش الہی کے نیچے

جب ہر طرف خوف کا عالم ہوگا اور سخت گرمی اور سورج کی تیزی ہوگی (حدیث نبویؐ کی روشنی میں) سات قسم کے لوگ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ وہ یہ ہیں۔

- (۱) انصاف کرنے والا بادشاہ۔
- (۲) جوانی میں اللہ کی بندگی کرنے والا۔
- (۳) ذکر الہی اور نماز کے شوق میں مسجد میں جس کا دل انکار ہوتا ہو۔
- (۴) اور وہ شخص جو تنہائیوں میں اپنے اللہ کو یاد کر کے روتا رہتا ہو۔
- (۵) وہ دونوں شخص جو خالصتاً صرف اللہ کے لئے آپس میں محبت رکھتے ہوں۔
- (۶) اور وہ آدمی جو راہ خدا میں کچھ اس انداز سے خرچ کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی خیرات کا علم نہ ہو۔
- (۷) وہ شخص بھی وہاں جگہ پائے گا جسے کوئی خوبصورت اور صاحب ثروت عورت اپنی طرف، بڑے کام کے لئے راغب کرے اور وہ محض محبت الہی کی وجہ سے برائی سے بچا رہے۔ (بخاری و مسلم)

بعض روایات میں ان کے علاوہ کچھ اور گروہوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، جس سے تمام لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جن سے غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی تھیں وہ پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ آج ہر شخص فرشتوں، جن اعمال و اقوال جنت اور دوزخ کو دیکھ سکے گا۔ عرش بھی نظر آ رہا ہوگا اور تجلیات الہی بھی نظروں کے سامنے ہوں

گی۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا ہے:

ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (سورہ زمر)

پھر صور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔

سب سے پہلے ہمارے محبوب نبی علیہ السلام ہوش میں آئیں گے اور ان کے بعد ساری مخلوق بیدار ہو جائے گی۔ (بخاری و مسلم)

چاند، سورج، ستارے بے نور ہوں گے اور اللہ کے فرمان:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا.

اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ (زمر)

کے مطابق نور کی روشنی سے آسمان و زمین منور ہوں گے۔ سب لوگوں کو چپ

کرا دیا جائے گا سب سے پہلے ارشاد الہی ہوگا۔

### اللہ تعالیٰ کا بندوں سے خطاب

”اے بندو! آدم سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جو کچھ تم کرتے تھے میں دیکھتا اور سنتا تھا۔ وہ سب کچھ فرشتوں نے لکھا ہے۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ بلکہ تمہارے اعمال کے مطابق ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص اعمال کو نیک پائے وہ میرا شکر ادا کرے اور جس کے اعمال برے ہوں وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ارشاد الہی ہے:

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

”اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔“

(ادھر یہ بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے) حکم ہے کہ حاضر ہو جائے اللہ کی تجلیات میں لپٹی ہوئی، نہایت ہی آراستہ و پیراستہ ہر شخص کو دکھائی دے رہی ہوئی۔ (ابھی لوگ اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ) بڑے بڑے آگ کے شعلے اُونٹوں کی طرح نظر آ رہے ہیں اور بڑا ہی ڈراؤنا

منظر ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَمَا لَقَصِرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ

(سورہ المرسلات)

دوزخ ہے اس میں سے ہیبت ناک آوازیں آ رہی ہیں دوزخ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ! انسانوں اور جنوں میں سے میری غذا بننے والوں کو میرے سپرد کر دے۔ یہ آوازیں کر لوگ کانپ اٹھیں گے اور ڈر کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَجِي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

اور جنت پر ہیروز گاروں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم قریب لائی جائے گی۔

اس دن (لوگوں کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ) اگر کسی نے ستر بیغیروں کے برابر بھی عمل کیے ہوں گے تو بھی وہ کہے گا کہ آج کے لئے میں نے کچھ بھی نہیں کر رکھا۔ ایک شخص جس نے ہمیشہ بے ضرر زندگی بسر کی وہ دوزخ کے سامنے لایا جائے گا۔ ادھر دوسرا آدمی جس تکلیفوں والی زندگی گزاری اسے جنت کے سامنے لایا جائے گا پھر دونوں کو میدان محشر میں سب کے سامنے لا کر سوال کیا جائے گا۔ تو جنتی بیان دے گا کہ میرے رگ و پے میں اس قدر سکون آ گیا ہے کہ کبھی میں نے گویا تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ دوزخی کہے گا دنیا کے عارضی و فانی لذتیں ایسی بھول گئیں ہیں گویا کہ کبھی کوئی راحت و آرام نام کی چیز دیکھی ہی نہیں۔

## اعمال اپنی شکلوں میں ظاہر ہوں گے

لوگ دیکھیں گے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غلام آزاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر الہی وغیرہ سب اچھے کام اپنی اپنی خاص شکلوں میں نظر آئیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ! ہم حاضر ہیں۔ جواب ملے گا تم سب نیک ہو اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو بوقت ضرورت تم سے پوچھا جائے گا۔ ”اسلام“ بھی اپنی مخصوص

صورت میں آ کر کہے گا ”اے اللہ! تو ”سَلام“ ہے اور میں ”اِسْلام“ ہوں۔ ہوگا قریب آ! آج تیری ہی وجہ سے لوگوں سے پکڑ ہوگی اور تیرے ہی سبب معافی کا اعلان ہوگا۔ (حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ) لفظ ”اِسْلام“ سے کلمہ توحید کا مضمون مرد ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

بارگاہ مالک الملک سے حکم جاری ہوگا۔ اے فرشتو! ہر ایک کے اعمال نامے کو اس کے پاس بھیج دو۔ اس حکم کی تعمیل میں ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ مومنین کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور نافرمانوں کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہوگی ہر شخص اپنے دفتر کو ایک ہی نظر میں دیکھ لیں گے۔

## سوال و جواب کا سلسلہ اور گواہیاں

اول کافروں سے توحید و شرک کے متعلق سوال ہوگا۔ وہ جواب دیتے ہوئے شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ہرگز شرک نہیں کیا۔ ان کے قائل کرنے کے لئے زمین کے اس قطعہ کو جس پر وہ شرک کرتے تھے اور اس رات دن اور مہینے کو جس میں وہ کفر کرتے تھے۔ جو وہ جواب دیں گے قرآن میں ہے۔

وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

خدا کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ (سورہ الانعام)

ان کے انکار کی وجہ ان کے منہ پر مہر لگائی جائے گی اس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالٰی: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

اَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (سورہ یس)

آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے ان کے ہاتھ بولیں گے

ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کرتے تھے۔

اور حضرت آدمؑ کو جن پر ان کی اولاد کے روزانہ افعال ظاہر کیے جاتے تھے

اور ملائکہ کو جو ان کے اقوال و افعال کو قلم بند کرتے تھے، بطور گواہ بلایا جائے گا مگر جب کمال انکار کی وجہ سے تمام مذکورہ بالا شہادتیں اُن کے لئے کافی دانی نہ ہوں گی تو ان کی زبانوں پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ تب اُن کا ہر عضو اعمال سیوہ پر گواہ ہو جائے گا۔ شہادت ختم ہونے پر اولاً وہ اپنے اعضاء پر لعن و طعن کریں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا تمہارے ہی لئے کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم خدا کے حکم سے تمہاری تابعداری میں تھے۔ اب اسی کے حکم سے گویا ہوئے۔ بے شک تم ظالم تھے کیوں کہ تم نے مالک حقیقی کی خلاف ورزی کر کے ہم کو بھی اپنے ساتھ مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ خدا نے جو ہم کو تمہارا مطیع بنایا تھا اس کا تم نے کچھ شکریہ ادا نہیں کیا نہ ہماری تابعداری کی اصلی غرض سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم تو سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پس وہ لاچار ہو کر اپنے شرک و کفر کا اقرار کر لیں گے اور یلزم قرار پا جائیں گے۔

قرآن کریم میں اوپر والے حالات کی منظر کشی اس طرح کی ہے۔

وَقَالُوا الْجُلُودُ دِهْمٌ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا (سورہ ہم جہدہ)

اور کافر اپنے جسموں کی کھالوں کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔

قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَآلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورہ ہم جہدہ)

اعضاء بولیں گے ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

فَاغْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (سورہ ملک)

ترجمہ: وہ اپنے (اعضاء کی گواہی اور حقیقی جواب سن کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں پس ہلاکت ہے جہنم والوں کے لئے



## حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر امت محمد ﷺ کی گواہی

ثانیاً وہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اوّل یہ کہیں گے کہ ہم احکام الہی کے جاننے سے بالکل بے خبر تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں نے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجا۔ انہوں نے میرے احکام کو نہایت امانت داری کے ساتھ پہنچایا، تم نے کیوں غفلت کی اور احکام کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ جواب میں کہیں گے، نہ تو ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا نہ کوئی حکم پہنچا۔ پس اوّل حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ”اے جھوٹو! اے حق سے منہ موڑنے والو! کیا تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم کو ساڑھے نو سو برس کی مدت دراز تک طرح طرح کے وعظ سنا کر عذاب الہی سے ڈرایا۔ احکام الہی پہنچائے، کتنی محنت و کوشش کی علانیہ و پوشیدہ طور پر خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے اثبات میں کس قدر کوشش و جانفشانی کی۔ کھلی دلیلیوں اور معجزوں سے ان کو ثابت کیا۔“

(صحیح بخاری صحیح مسلم)

قرآن کریم میں ہے:

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا.

پس وہ اپنی قوم میں پچاس برس کم ایک ہزار سال تک رہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر چودہ سو برس کی تھی، جس میں سے ساڑھے نو

سو برس وعظ میں صرف ہوئے۔

قوله تعالیٰ إِنِّي أَخْلَسْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا.

کیا تمہیں یاد نہیں کہ فلاں مجلس میں میں نے تم سے اس طرح کہا

تھا اور تم نے ایسا جواب دیا تھا۔ (سورہ نوح)

اسی طرح اپنی تبلیغ اور ان کے انکار کے دیگر قصص یاد دلائیں گے مگر وہ صاف

مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں جانتے بھی نہیں، اور نہ کبھی تم سے کوئی خدائی

حکم سنا۔ اس پر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے نوح اپنی تبلیغ رسالت کے گواہ

پیش کرو۔ آپ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقعہ کے متعلق فرمایا ہے۔

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (بقرہ)

اے امت محمدیہ! تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔

اسی آیت کی سچائی ظاہر ہوگی اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے:

میرے گواہ، اُمّتیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس اس امت کے علماء،

صدیقین اور شہداء حاضر کر دئے جائیں گے۔

وہ عرض کریں گے۔

”ہاں! ہم ان کے گواہ ہیں“ بے شک تو نے ان کو رسول بنا کر تبلیغ احکام کے

لئے اس قوم کے پاس بھیجا تھا، ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا

خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ الْخ

امت نوح کے کافر کہیں گے کہ نہ تو تم ہمارے زمانے میں تھے،

نہ تم نے ہماری حالت دیکھی نہ ہماری گفتگو سنی، پھر تمہاری

شہادت ہمارے مقدمہ میں کیوں کر قابل سماعت ہو سکتی ہے؟

اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہوگا۔ اس نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور رسول تمہاری گواہیوں پر گواہ بن جائیں گے اور فرمائیں

گے۔

جو کچھ میری امت نے کہا وہ بالکل سچا و درست ہے کیونکہ ان کو اس حقیقت

حال کا ثبوت دنیا میں بذریعہ خبر الہی پہنچا ہے جو معائنہ و مشاہدہ سے کہیں قوی ہے۔

تب جا کر یہ کافر ساکت ہو کر ملزم قرار پائیں گے۔ انکے بعد اسی طرح حضرت ہود،

حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ علیہم

السلام کی اُمّتیں بالترتیب مقابلہ و مباحثہ کر کے بلا آخر قائل ہو جائیں گی اور ملزم قرار

پائیں گی، اس کے بعد عذر و معذرت کرتے ہوئے کہیں گے اے خداوند فی الواقع ہم نے نہیں سمجھا، خطا وار گنہ گار ہیں لیکن ان تمام خرابیوں کے باعث اور لوگ تھے پس ہمارے عذاب کو ان کی گردنوں پر رکھ اور ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ وہاں تیرے احکام کو قبول کر کے نیک عمل کریں۔

بارگاہ ایزدی سے جواباً ارشاد ہوگا کہ:

تمہارا عذر قابل سماعت نہیں، جو سمجھانے کا حق تھا وہ ادا ہو چکا۔ تم کو ہم نے لمبی مدت تک فرصت دی تھی اب دنیا میں واپس جانا ناممکن ہے۔

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ  
التَّذْيِرُ (سورہ فاطر)

کیا دنیا میں ہم نے تم کو اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ سچائی کو بخوبی معلوم کر سکتا اور حالانکہ سمجھانے والا (پیغمبر) بھی تمہارے پاس آ گیا تھا (پس اب یہ لیت و لعل کیسی؟)۔

اس کے ساتھ ہی ان کے کیے ہوئے نیک اعمال (جیسا کہ کفار ہسپتال بنواتے ہیں مخلوق خدا کی خوشی و آرام کے لئے دیگر خدمات انجام دیا کرتے ہیں) وہ برباد ہو جائیں گے اور گناہوں کو برقرار رکھا جائے گا۔

اسی حقیقت کو اسی دنیا میں قرآن کریم آشکارا کر رہا ہے۔

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنثَوِرًا  
(سورہ فرقان)

کیوں کہ انہوں نے اپنے زعم میں جو کچھ نیک اعمال بتوں کیلئے کیے تھے۔ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، ماسوا ان کے جو کچھ انہوں نے خدا کے لئے کیے تھے ان کا یہ سبب جہالت معرفت و مخالفت احکام الہی دنیا میں صلہ دے دیا گیا۔ اس لئے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

## جنت اور دوزخ کے مناظر

### دوزخ کے کچھ حالات

(بخاری و مسلم میں ہے) پس حضرت آدم کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخیوں کا گروہ علیحدہ کر دو۔ آپ عرض کریں گے کس حساب سے؟ ارشاد باری ہوگا کہ فی ہزار ایک آدمی جنت کے لئے اور نو سو ننانوے دوزخ کے واسطے۔ اس وقت لوگوں میں اس قدر بل چل ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔

پھر حکم ہوگا کہ جس جس شخص نے عمل کیا ہے وہ اپنے اپنے معبود سے خود جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ پس جس وقت وہ اپنے معبودوں کی جستجو میں ہوں گے۔ تو بت پرستوں کے لئے وہ شیاطین جو بتوں سے تعلق رکھ کر بت پرستی و سرکشی کے باعث بنے تھے اور خواب و بیداری میں نئے نئے کرشمے دکھاتے تھے، سامنے آ جائیں گے اور جو جماعتیں کہ حضرت عیسیٰ و ملائکہ و دیگر انبیاء علیہ السلام و اولیاء کو پوجتی تھیں۔ چونکہ یہ صالحین ان کے بد اعمال سے بیزار تھے اور درحقیقت ان کی گمراہی کے باعث بھی شیاطین ہی تھے۔ اللہ کا یہ ارشاد سچا ہو رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں۔

قوله تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ  
اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ  
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً  
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝ (سورہ احقاف)

اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارے اور (یہ ظالم) اسے پکارتا ہے جو اس کی باتوں اور دعاؤں کے سننے سے بے پرواہ ہیں۔ جب قیامت کے دن (ان بتوں اور ان کے

ماننے والوں کو) جمع کیا جائے گا تو یہ بت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔

لہذا وہی شیاطین ان کے سامنے آ جائیں گے۔ پس جو فرشتے انتظام پر مامور ہوں گے، وہ اُن سے دریافت کریں گے کیا تمہارے معبود یہی ہیں؟ وہ اپنے پورے یقین کے ساتھ بوجہ اس مناسبت معنوی کے جو ان کو بتوں کے ساتھ تھی کہیں گے درحقیقت ہمارے معبود یہی ہیں۔ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ انہیں کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا و سزا تک پہنچا دیں۔ پس یہ بسبب شدت پیاس اپنے معبودوں سے پانی طلب کریں گے اس پر ان کے لئے سراب یعنی چمکتا ہوا ریتا نمودار ہو جائے گا وہ اُس کو پانی سمجھ کر دوڑیں گے، پہنچنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ وہ آگ ہے، جو بڑی لپٹوں سے ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت دوزخ میں سے لمبی لمبی گردنیں نکلیں گی جو دانوں کی طرح ان کو چن چن کر دوزخ میں ڈال دیں گی۔

## ابلیس لعین کا دوزخ میں خطاب

جب کفار آگ میں جمع ہو جائیں گے تو شیطان آگ کے منبر پر چڑھ کر سب کو اپنی طرف بلائے گا۔ (تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ دوزخ میں ابلیس کے لئے منبر ہوگا جس پر) گھوڑا ہوگا اور یہ سوچ کر اس کے پاس آ جائیں گے کہ ہمارے سردار صاحب ہیں شاید کسی طرح نجات دلا دیں۔

جب سب چیلے اپنے گرد کے پاس آ جائیں گے تو (اللہ کا ارشاد سچا ہوگا جس کی اسی دنیا میں خبر دے دی گئی ہے، تاکہ شیطان کی بے وفائی کا لوگوں کو علم ہو جائے)۔

فرمایا:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَانِ اللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ  
الْحَقُّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ  
سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي  
وَلَوْ مَوَّأ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ

بمُصَوِّرِ حَيْثِ الْآيَةِ (سورہ ابراہیم)

پس شیطان کہے گا کہ خدا کے تمام احکام بجا و درست تھے، میں تمہارا اور تمہارے باپ کا دشمن تھا۔ مگر یہ یاد رہے کہ تم میں سے کسی کو زبردستی سے اپنی طرف نہیں کھینچا۔ البتہ برے کاموں کی ترغیب دی تم نے بسبب کم عقلی و خام طبعی میرے دوسوں کو سچا جان کر اختیار کیا پس اس وقت اپنے آپ پر ہی ملامت کرو نہ کہ مجھ پر، علاوہ ازیں مجھ سے کسی قسم کی نجات و خلاصی دلانے کی امید نہ رکھنا۔ اس یاس و نا اُمیدی کے جواب کو سن کر سارے دوزخی آپس میں لعن طعن کرنے لگیں گے دنیا کے سردار اور ان کے ماننے والے سب یہ چاہیں گے کہ اپنے وبال کو دوسرے پر ڈال کر خود سبکدوش ہو جا میں مگر یہ خیال مجال و بے سود ہوگا اور قہر کے فرشتے اُن کو کشاں کشاں اس مقام تک پہنچا دیں گے جو اُن کے اعمال و عقائد کے مطابق ان کا ٹھکانہ بنا ہوگا۔

## دوزخ کی آگ اور جہنم کے طبقات

بخاری و مسلم و ترمذی، سب میں ہے، دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے ستر حصے زیادہ گرم ہے، اُس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر ہزار برس بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے سات طبقے ہیں، جن میں ایک ایک بڑا پھانک ہے۔ پہلا طبقہ گناہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لئے مخصوص ہے، جو باوجود شرک کئی نیک عملوں کی حمایت کرتے تھے دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصاریٰ اور منافقین کے لئے مقرر ہیں۔ ان طبقوں کے نام یہ ہیں۔ قرآن کریم میں دروازوں کا ذکر یوں ہے:

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

معاالم التزئیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں آٹھ دروازوں سے، آٹھ طبقے مراد ہیں۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ آٹھ دروازے اوپر تلے ہیں، ان طباقوں کے نام قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں۔

(۱) حمیم (۲) جہنم (۳) سعیر (۴) سقر (۵) نطی (۶) ہادویہ (۷) حطمہ۔

ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت ہے اور قسم قسم کے عذاب ہیں اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ہے، جس کا نام غی ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. (القرآن)

عقریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔

اس کی سختی سے تو دوزخ بھی چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔

سَأَرْهَقُهُ صَغُودًا. يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ.

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وَفَاقًا.

إِلَّا مِنْ غَسِيلَيْنِ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ (سورة المائد)

ان آیات میں دوزخ کا تذکرہ اس کے ناموں کے ساتھ ہوا ہے۔

ایک اور مکان ہے، جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں اور ایک مکان ہے، جس کو ”جب الحزن“ یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں اور ایک کنواں ہے جس کو طعیۃ النجبال یعنی زہر و پیپ کی کچھڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو ”صعود“ کہتے ہیں اُس کی بلندی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر نار دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔

ایک تالاب ہے جس کا نام ”آب حمیم“ ہے پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سو جھ جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں اور نیچے کالب سو جھ کر سینے و ناک تک پہنچتا ہے زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔

ایک اور تالاب ہے جس کو ”غساق“ کہتے ہیں اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔

ایک چشمہ ہے جس کا نام ”غسلین“ ہے اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے۔ خونناک مکانات ہیں۔

## دوزخ میں جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا

اہل دوزخ کے بہت چوڑے چکلے جسم بنا دیئے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہر اور باطناً طرح طرح کے عذاب پہنچائیں گے، مثلاً جلانا، پکھلنا، سانپ بچھوؤں کا کاٹنا، کانٹوں کا چھبونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا وغیرہ وغیرہ ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے یہاں تک کہ ایک گھڑی میں سات سو جسم بدلتے رہیں گے۔

كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا  
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ.

جب ان کے جسم جل جائیں گے تو ہم ان کو اور کھال دے دیں  
گے، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ (سورہ نساء)

مگر یہ واضح رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت و پوست جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا اور غم حسرت نا اُمیدی، خلل شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کریں گے۔ بعض کافروں کی کھال پیالیں پیالیں گز موٹی ہوگی۔ دانت پہاڑوں کی مانند بیٹھنے میں تین تین منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔

ترندی میں آیا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں اتنی مسافت ہوگی جتنی مکہ وہ مدینہ میں ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان تین روز کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ (ترندی)



## بھوک کا عذاب اور کھانے کی سزاء

ایک عرصہ گزر جانے کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام غذا یوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر سب دوزخی غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کے پھل جو (نہایت تلخ خاردار اور سخت ہے اور جحیم کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے) ان کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ (کو یا یہ کھانے کی سزا ہوگی) اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامٌ إِلَّا تَيْمٌ

زقوم کا درخت ہے گنہگار کا کھانا۔

قوله تعالى وَطَعَامًا ذَا غُصْبَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. (سورة الزلزل)

اور جب یہ کھانا حلق سے نہ اترے گا، تو سوچیں گے دنیا میں تو پانی پی لیتے تھے۔ یہاں پینے کی جگہ کون سی ہے اور کہاں سے کیا پیا جائے، تو پانی مانگیں گے۔ حکم ہوگا کہ ”جحیم“ سے پانی لا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی و سینہ تک پہنچ جائیں گے۔ زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ انتڑیاں پھٹ کر پچانہ کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ ارشاد ہے:

سُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. (قرآن مجید ب ۲۶)

انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔

## داروغہ جہنم سے درخواست

اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آہ و زاری کریں گے کہ ہم کو تو واردے تاکہ ان مصائب سے نجات پالیں۔ ہزار سال کے بعد وہ جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر ہزار سال کے بعد خداوند کریم سے دعا کریں گے

کہ اے خدائے قدوس ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ ہزار سال کے بعد بارگاہ ایزدی سے جواباً ارشاد ہوگا۔  
خبردار خاموش رہو! ہم سے استدعا نہ کرو! تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔  
آخر مجبور ہو کر کہیں گے آؤ بھائی صبر کرو کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے اور خداوند کریم کو تضرع و زاری کے ساتھ ایک ہزار برس تک یاد کریں گے۔ آخر بالکل ناامید ہو کر کہیں گے۔ بے قراری و صبر ہمارے حق میں برابر ہے۔ کسی طرح شکل نجات نظر نہیں آتی۔ یہ مضمون مندرجہ ذیل آیات سے لیا گیا ہے۔

قوله تعالى وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ إِنَّكُمْ  
مَا كُنْتُمْ

اور وہ پکاریں گے کہ، اے دروغہ جہنم! تیرا رب ہمارا کوئی موت کا فیصلہ ہی کر دے۔

تو وہ کہے گا: تم اسی میں پڑے رہو۔

قوله تعالى اٰخَسُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُوْنَ-

قوله تعالى سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ غَنَّا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ-

(سورہ ابراہیم)

صبر اور بے صبری ہمارے لئے برابر ہیں۔

قوله تعالى اٰخَسُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزُوْا جِهَهُمْ (سورہ الممت)

جب اللہ اور فرشتوں کی جانب سے یہ جواب سنیں گے تو مایوس ہو جائیں گے ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی اور وہ گدھوں، بھیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ وغیرہ کی شکل میں ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو میدانِ حشر میں لٹا کر پاؤں میں روند دیا جائے گا۔ یہ کافروں کی حالت کا بیان ہے۔

## اہل ایمان کے اعزازات اور اہل کفر و فسق کی پکڑ

بخاری ترمذی و مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں مسلمانوں کی حالت مختلف ہوگی، نیک اعمال کے لحاظ سے بڑے چھوٹے مراتب ہوں گے ایک جماعت جو خالصاً توجہ اللہ ایک دوسرے سے ملاقات و محبت و جدائی و فراق کرتی تھی۔ خدا کے دائیں طرف، نور کے ممبروں پر ہوگی اور بعض کو جو توکل سے آراستہ تھے اور مہمات دین و دنیا کو نہایت راستی سے انجام دیتے تھے کے چہرے کو چودھویں رات کے چاند کے مانند بنا کر بے حساب و کتاب جنت کے لئے جدا کر دیا جائے گا۔

### حق کو پھیلانے والے

وہ لوگ بھی جو ترک دنیا کے لئے، اعلاء کلمہ توحید میں شب و روز کوشاں تھے بے حساب و کتاب جنت کے لئے علیحدہ کلمہ توحید میں شب و روز کوشاں تھے۔ بے حساب و کتاب جنت کے لئے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔

### راتوں کو جاگنے والے سادات الناس

ان لوگوں کو بھی جو راتوں میں نہایت ادب و حضور قلب سے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، ”سادات الناس“ کا خطاب دے کر بے حساب و کتاب جنت کے لئے جدا کر دیا جائے گا۔

### ”أَشْرَفُ النَّاسِ“ تعریف و حمد الہی کرنے والے

اس کے بعد وہ جماعت جو ظاہراً و باطناً ہمیشہ ذکر و طاعت الہی میں مصروف رہتی تھی اور سختی اور آسائش کی حالت میں یکساں حمد الہی کرتی تھی، اشرف الناس کے خطاب سے ملقب کی جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان و منافقین مختلف گروہوں پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔

## ہر عمل کے لحاظ سے تقسیم

نمازی نمازیوں میں، روزے دار روزے داروں میں، حاجی حاجیوں میں، سخی سخیوں میں، مجاہد مجاہدین میں، منکسر المزاج اہل تواضع میں، محسنین و خوش اخلاق اپنی جنس میں، اہل ذکر و طیفہ گزار اہل خوف و ترحم، عادل و منصف اہل شہادت، اہل صدق و وفا، علمائے راسخین و زہاد، عوام کالانعام، حکام، ظالم، خونخوار، قاتل، زانی، دروغ گو، چور، رہزن، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، سود خوار، رشوت خوار، حقوق العباد کے تلف کرنے والے، شراب خوار، تیبہوں و بیکسوں کے مال کھانے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، عہد کو توڑنے والے وغیرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو کر اپنی جنس میں جا ملیں گے پھر ان گروہوں میں سے وہ لوگ جو مذکورہ صفات میں سے دو تین یا چار یا اس سے زیادہ اوصاف رکھتے ہوں جدا کر کے الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔

### سود خوروں، زکوٰۃ نہ دینے والوں اور جھوٹوں کا عذاب

موشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو میدان حشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان پر سے گزر کر پائمال کر دو پس وہ بار بار گزر کر ان کو روندتے رہیں گے۔

(مسلم)

سود خوروں کے پیٹوں کو پھلا کر ان میں سانپ، بچھو بھر دیے جائیں گے اور آسب زدہ حالت میں ہوں گے۔ مصوروں کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روح ڈالیں۔

(بخاری)

جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو مجبور کیا جائے گا کہ دو جو کے دانوں میں گرہ لگائیں۔

(بخاری)

چغٹل خوروں کے کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اسی طرح بعض فاسقین پر سزائیں دمواخذہ ہوگا۔

## اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرمائیں گے

صحیح بخاری میں ہے کہ جس وقت میدانِ محشر کفار سے بالکل خالی ہو جائے گا اور ہر زمانے کے مسلمان میدانِ حشر میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو خدائے قدوس ان پر ظاہر ہو کر فرمائے گا

”اے لوگو! تمام مذاہب و ادیان کے لوگ اپنی جگہ چلے گئے تم کیوں اب یہاں ٹھہرے ہو؟“

وہ عرض کریں گے کہ ”وہ تو اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے۔ جب ہمارا معبود ہم کو اپنے ساتھ لے گا، اس وقت ہم بھی اُس کے ساتھ چلیں گے۔“

ارشاد باری ہوگا کہ ”میں ہوں تمہارا معبود، آؤ میرے ساتھ چلو“

لیکن چونکہ آدمی اس صورت کو نہ پہچانیں گے کہ یہ خدا کی تجلی ہے کہیں گے کہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو ہمارا معبود نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم اس کو دیکھ سکتے۔ پھر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا۔ تمہارے علم میں کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعہ سے اس کو پہچان سکو؟

وہ کہیں گے ہاں۔ پس وہ تجلی پوشیدہ ہو کر دوسری تجلی نمایاں ہوگی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ (سورۃ اہم)

جس دن پنڈلی کھولی جائے اور سب کو سجدہ کی طرح بلایا جائے گا۔

جب پنڈلی سے پردہ اٹھے گا، اس کو دیکھتے ہی، سب کہیں گے، کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے اور سب سر بسجود ہو جائیں گے، مگر منافقین بجائے سجدہ کرنے کے پشت کے بل گریں گے، حکم ہوگا کہ دوزخ و جنت کو میدانِ حشر کے درمیان رکھو۔

## حساب، کتاب کا ایک منظر

اس کے بعد اعمال کا حساب میدانِ حشر میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب اس طور پر لیا جائے گا کہ اپنی تمام عمر میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی ذمہ واجب ہیں اور ارکان و آداب ظاہری و باطنی کتنے ادا کیے ہیں اور کس قدر نوافل پڑھے ہیں؟ اور اگر اس کے فرائض ترک ہوئے ہوں تو ایک فرض کے عوض میں ستر نوافل قائم ہو سکیں گے۔

نماز انسانی صورت میں حاضر ہو جائے گی۔ جو نمازیں بلا خشوع و خضوع و ذکر الہی و ورد و وظائف پڑھی ہوں گی وہ بے دست و پا ہوں گی جن نمازوں میں ان امور مذکورہ کا لحاظ رکھا گیا ہو وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہوں گی، اس کے بعد دیگر عبادات بدنی کا بھی مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا اسی طور پر حساب و کتاب ہوگا۔ نیز زہد، حرص و بینی علوم، خون، زخم، اکل و شرب، ناجائز خرید و فروخت، حقوق العباد وغیرہ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ ظالموں سے مظلوموں کو اس طور سے بدلہ دیا جائے گا کہ اگر ظالم نے نیکیاں کی ہیں تو اس کے حسب ظلم مظلوموں کو دلوائی جائیں گی اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ حسب اندازہ ظلم ظالم کی گردن پر ڈالے جائیں گے۔ البتہ ظالموں کا ایمان و عقیدہ کسی کو نہ دیا جائے گا۔ بعض ایسے عالی ہمت بھی ہوں گے کہ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اپنی نیکیوں کو بغیر کسی عوض کے دوسروں کو بخش دیں گے۔

(مسند امام احمد)

## تو بھی جا اور اسے بھی لیتا جا

چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ دو آدمی مقامِ میزان میں اس قسم کے حاضر ہوں گے کہ ایک کی نیکیاں و برائیاں برابر ہوں گی دوسرا ایسا ہوگا کہ جس کی صرف ایک نیکی ہوگی اول الذکر کو حکم ہوگا کہ تو کہیں سے اگر ایک نیکی مانگ لائے تو نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور تو جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ تمام لوگوں سے استعدا

کرے گا مگر کہیں سے کامیابی نہ ہوگی آخر مجبوراً واپس آئے گا۔ جب آخر الذکر کو یہ حال معلوم ہو جائے گا تو کہے گا کہ بھائی میری تو صرف ایک ہی نیکی ہے اور باوجود اتنی خوبیوں کے تجھ کو ایک نیکی بھی کسی نے نہ دی بھلا مجھ کو کون دے گا۔ لے یہ ایک نیکی بھی تو ہی لے لے تاکہ تیرا کام تو بن جائے۔ میرا اللہ مالک ہے۔ خداوند کریم اپنے بے انتہا فضل و کرم سے ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں لے جا کر ایک درجہ میں چھوڑ دو۔

## ترازو سے اعمال تو لے جائیں گے

تمام چھوٹی و بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر دی جائیں گی لیکن ان کا وزن حسب عقیدہ ہوگا یعنی جس قدر عقیدہ پختہ و خالص ہوگا، اتنی ہی زیادہ وزنی ہوگی۔ جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کی نانوںے برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی ہوگی اور یہ تولتے وقت بارگاہ ایزدی میں عرض کرے گا۔ اے خداوند! میری اس نیکی کی اتنی برائیوں کے مقابلہ میں کیا حقیقت ہے کہ تولی جائے۔ جب میں دوزخ کے لائق ہوں تو بغیر تولے مجھ کو بھیج دے۔ اس وقت ارشاد باری ہوگا کہ ہم ظالم نہیں یہ ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت وہ برائیوں کے مقابلہ میں تولی جائے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مستحق جنت قرار پائے گا۔ (شاہ رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں) کہ میرے علم میں یہ نیکی شہادت فی سبیل اللہ ہے جو تمام عمر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے واللہ اعلم۔ اگرچہ پل صراط اور میزان کے متعلق علماء کا اختلاف ہے مگر اظہر یہ ہے کہ میزان بہت سی ہوں گی، چنانچہ آئیہ کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے یہی مفہوم ہے۔ اسی طور سے یہ بھی قیاس میں آتا ہے کہ پل صراط بھی بہت سے ہوں گے، خواہ ہر امت کے لئے ہوں یا ہر قوم کے لئے واللہ اعلم۔

## ہر امت اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور روشنی بقدر اعمال

اللہ فرماتے ہیں:

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُمَّةٍ بِإِمَامِهِمْ (بنی اسرائیل)

ہم ہر امت کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔

قبل اس کے کہ میدان محشر سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو، تمام میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ پس ہر امت کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان کو نور کی دودو مشعلیں عنایت ہوں گی۔ ایک آگے چلے گی، دوسری دائیں جانب اور جو ان سے کمتر ہوں گے، ان کو ایک ایک مشعل دی جائے گی اور جو ان سے کم ہوں، ان کے صرف پاؤں کے انگوٹھے کے آس پاس خفیف سی روشنی ہوگی اور ان سے بھی جو گئے گزرے ہوں گے ان کو ٹمٹماتے ہوتے چراغ کی طرح روشنی دی جائے گی، جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی۔ (معالم التنزیل) ارشاد عالی ہے:

نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ (سورہ حدید)

ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ہوگی۔

لیکن منافقین اس نور سے خالی ہوں گے، دوسروں سے روشنی حاصل کریں گے اور اہل ایمان سے سوال کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو، تو وہ جواب دیں گے ”واپس پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو“ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں جن کا مفہوم اوپر بیان کیا گیا ہے فرمایا:

قوله تعالى يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ

لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا

وراءكم قالتيمسوا نورا. (الحدید)



## پل صراط پر حاضری اور فاطمہ بنت محمدؑ کی سواری

یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے کے قریب جا پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حکم ہوگا کہ اس پر ہو کر جنت میں چلو، وہ پندرہ ہزار سال کی مسافت میں ہے۔ جن میں سے پانچ ہزار بیچ میں چلنے کے اور پانچ ہزار اترنے کے ہیں۔ حاصل کلام جب میدان محشر سے پل صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی کہ اے لوگو! اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تاکہ فاطمہؑ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل سے گزر جائیں۔

(ترمذی داری)

اس کے بعد بعض لوگ تو بجلی کی چمک کی طرح، بعض ہوا، بعض گھوڑے، بعض اونٹ، بعض معمولی رفتار کے مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ نہایت محنت و مشقت کے ساتھ پل پر چلیں گے۔ اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے آکس نکلیں گے جو ان میں سے بعض کو تو چھوڑ دیں گے بعض کو کچھ کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے رشتہ، امانتیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی۔ پس جنہوں نے ان کی رعایت نہ کی ہو ان کو دوزخ میں کھینچ کر ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلاً نماز روزہ ورد و خائف وغیرہ لوگوں کے کام آئیں گے اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ بخاری میں ہے:

اتقوا النار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑا صدقہ کرو۔

قربانی سواری کا کام دے گی اور اس مقام کے ہول کا وجہ سے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی مگر پیغمبر علیہ السلام اپنے امتوں کے حق میں (رب سلم سلم) کہیں گے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

## جب منافقین پل صراط پر ہوں گے

جب مسلمان پل صراط پر چڑھ جائیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے، بھائیو! ذرا ٹھہرنا کہ تمہارے نور کے طفیل سے ہم بھی چلے چلیں۔ وہ جواب دیں گے ذرا پیچھے چلے جاؤ۔ جہاں سے ہم نور لائے ہیں تم بھی وہیں سے لے آؤ۔ پس جب پیچھے جائیں گے تو وہاں بے انتہا تاریکی اور ہول دیکھیں گے۔ آخر کار نہایت بے قرار ہو کر واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پل صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دروازہ بند ہو گیا ہے پس نہایت ہی گڑگڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے جواب ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک تم ہمارے ساتھ تھے لیکن بظاہر اور دل میں شک و شبہ کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائیاں اور کفار کی بھلائیاں چاہتے تھے۔ لہذا مناسب ہے کہ جن کا ساتھ دیتے تھے انہیں سے جاملو۔ اللہ تعالیٰ کے جس ارشاد عالی کا یہ مفہوم اوپر بیان کیا ہے، اس کے مبارک الفاظ یہ ہیں:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا  
نَفْتِيسَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا  
نُورًا فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ  
وَوَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَ لَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  
قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ  
وَعَدَّتُمْ الْآمَانِيَّ.

(الایۃ سورۃ الحدید)

ابھی وہ حیران و سرگرداں ہو رہے ہوں گے کہ کہاں جائیں تو اسی اثناء میں آگ کے شعلے ان کو گھیر کر انہیں جہنم کے سب سے نیچے درجے میں پہنچا آئیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آج بھی قرآن کریم میں ہے تاکہ لوگ منافقوں والی

عادات سے بچ کر سچے مسلمان بن جائیں۔ (فرمایا:

قوله تعالى إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ  
ترجمہ: منافق (مسلمانوں کے بدخواہ، کافروں کے خیر خواہ)  
دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔

ادھر منافقوں کا یہ حال ہوگا اور ادھر وہ مسلمان جو بچلی وہوہا کی رفتار کے موافق  
پل صراط پر سے گزریں گے وہ پل کو عبور کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رستہ  
میں دوزخ آئے گی لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور وہ لوگ جو سلامتی کے ساتھ  
گزریں گے وہ بھی پل صراط سے اتر کر میدان میں ان سے جا ملیں گے۔ دنیا میں جو  
ایک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں گے۔

## جنت کے مناظر کا بیان

محمد عربیؐ جنت کھولیں گے اور امت کی سفارش کریں گے  
جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جنت کا قفل کھول  
کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:  
المفاتیح یومئذ بیدی۔

جنت کی چابیاں اس دن میرے پاس ہوں گی۔ (ترمذی)  
یہاں پہنچ کر آپ اپنی امت کی تفتیش حال کریں گے اُس وقت آپ کی امت  
تمام اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگی۔ دریافت حال کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے  
گا کہ ابھی میری امت میں سے ہزار ہا آدمی دوزخ میں پڑے ہیں تو بوجہ اس کے کہ  
آپ رحمۃ للعالمین ہیں غمگین ہو کر درگاہ الہی میں عرض کریں گے۔ ”اے خدا! میری  
امت کو دوزخ سے خلاصی دے“ یہ شفاعت بھی شفاعت کبریٰ کے مانند جو آنجناب  
نے کی تھی ہوگی۔ یعنی سات روز تک سر بسجود رہ کر عجیب و غریب حمد و ثنائیاں فرمائیں  
گے، تب بارگاہ الہی سے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو  
اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔

## اہل جنت کو اجازت سفارش ہوگی

آپ کو دیکھ کر دوسرے پیغمبرؐ بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ پس  
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر بمعیت امت  
دوزخ کے کنارے پہنچ کر فرمائیں گے۔ اپنے اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں کو  
یاد کر کے ان کی نشانی بتاؤ تاکہ یہ فرشتے اُن کو دوزخ سے نکال لیں۔ چنانچہ ایسا ہی  
ہوگا۔

علاوہ ازیں شہداء کو ستر، حافظوں کو دس، علماء کو حسب مراتب لوگوں کی شفاعت

کا حق ہوگا۔ جب آپ ان کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گے تو آپ کی اُمت اس وقت تمام اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگی۔

پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تفتیش فرمائیں گے کہ اب میری اُمت میں سے کس قدر دوزخ میں باقی ہیں؟ جواب ہوگا۔ حضورؐ ابھی تو ہزار ہا دوزخ میں موجود ہیں۔ آپ پھر بدستور سابق بارگاہِ ایزدی میں شفاعت کریں گے۔ حکم ہوگا کہ جس کسی کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔

(بخاری)

پس آپ بدستور سابق علماء اولیاء شہداء وغیرہ کو دوزخ کے کنارے لے جا کر فرمائیں گے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں، واقف کاروں وغیرہ کو یاد کرو اور پہچان کر کے دوزخ سے نکلوا لاؤ۔ اس وقت بھی ہزار ہا آدمی دوزخ سے سے رہا ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ کی اُمت تمام اہل جنت کا نصف حصہ ہوگی۔ اس شفاعت کے بعد آپ پھر دریافت فرما کر بدستور ہائے سابق شفاعت کریں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہوگا کہ جس کے دل میں آدھے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔

(بخاری و مسلم)

پس بدستور سابق ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے برآمد ہو کر جنت میں داخل ہوگی اس وقت آپ کی اُمت تمام اہل جنت سے دو چند ہو جائے گی۔

## صرف موحدین جنت میں

موحدین میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہے گا۔ مگر وہ موحدین جن کو انبیاء علیہم السلام کا تو سل حاصل نہ ہو یعنی ان کو پیغمبروں کے آنے کا علم نہیں ہوا ہو، وہ جو پیغمبروں کو معلوم کر کے منحرف ہو گئے ہوں، ان کے حق میں بھی حضور اقدس صلعم شفاعت کریں گے مگر خداوند کریم فرمائے گا کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کو میں خود بخشوں گا۔

## مشرکوں اور موحدوں کا نزاع

اسی اثنا میں مشرکین اور ان موحدین میں نزاع ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ مشرکین بطور طعنہ کہیں گے کہ تم تو حید کے متعلق دنیا میں ہم سے جھگڑتے تھے اور اپنے آپ کو سچے بتاتے تھے مگر معلوم ہوا کہ تمہارا خیال غلط تھا دیکھو ہم اور تم یکساں ایک ہی بلا میں مبتلا ہیں۔ پس اس وقت خدائے قدوس فرمائے گا۔ کیا انہوں نے شرک و تو حید کو یکساں سمجھ لیا ہے۔ قسم ہے عزت و جلال کی کہ میں کسی موحد کو مشرک کے برابر نہ کروں گا۔

## آخر میں جنت جانے والے

پس ان تمام موحدین کو اس روز کے آخر میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے دوزخ سے اپنے دست قدرت سے نجات دے گا۔ اس وقت ان لوگوں کے جسم کو نلکہ کی طرح سیاہ ہوں گے۔ لہذا آب حیات کی نہر میں (جو جنت کے دروازوں کے سامنے ہے) غوطہ لگا دیں گے جس سے ان کے بدن صحیح و سالم ہو کر تروتازہ ہو جائیں گے اور ایک مدت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، مگر ان کی گردنوں پر ایک سیاہ داغ رہے گا اور اہل جنت میں ان کا لقب جہنمی ہوگا۔ پس وہ ایک مدت کے بعد درگاہِ الہی میں عرض کریں گے ”خداوند! جب تو نے دوزخ سے ہم کو نجات دی تو اس نشان و لقب کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور کر دے“ پس خدا کی مہربانی سے وہ نشان اور لقب بھی ان سے دور ہو جائے گا۔

بخاری و مسلم میں ہے سب سے آخری شخص جو دوزخ سے برآمد ہو کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ سے نکال کر کنارہ پر بٹھا دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آئے گا تو کہے گا کہ میرے منہ کو اس طرف سے پھیر دو۔ پس اس سے عہد لیا جائے گا کہ اس کے سوا اور کچھ تو نہ مانگے گا، جب وہ پختہ عہد کر لے گا تو اس کا منہ پھیر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کی جانب نظر کرے گا تو

اس کو نہایت تروتازہ درخت دکھائی دیں گے۔ پس وہ شور مچائے گا۔ الہی مجھ کو وہاں پہنچا دے۔ پھر اس سے حسب سابق وعدہ لے کر وہاں پہنچا دیا جائے گا اور اسی ترتیب سے خوشنما درخت و عمدہ مکانات کو دیکھ کر وعدہ توڑ بیٹھے گا۔ جنت کے پاس پہنچ جائے گا اور جب وہ جنت کی تروتازگی و رونق دیکھے گا تو تمام وعدوں کو توڑ کر نہایت گڑگڑا کر جنت میں داخل ہونے کا خواستگار ہوگا۔

لیکن جب اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی تو اس خیال میں پڑ جائے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، اب میرے لئے اس میں مکان کی گنجائش کہاں ہوگی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا۔ جا وہاں جگہ کی کمی نہیں ہے۔ عرض کرے گا کہ خداوند! شاید تو مجھ سے تمسخر کرتا ہے۔ حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ خداوند کریم فرمائے گا کہ جس قدر تجھے مانگنا ہو مانگ لے میں تیرے مانگنے سے دو چند عطا کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور یہ اہل جنت میں سے ادنیٰ مرتبہ کا جنتی ہے اعلیٰ کا حال کیا ہوگا۔

## اہل جنت کی باہمی محبت کی باتیں اور

### اندرونی مسرتوں کے احوال

جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں تو کبھی کبھی وہ آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ:

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا  
مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَهْمَا  
عَلَى الْكَافِرِينَ.

(سورہ اعراف)

حاصل کلام: جب تمام اہل جنت اپنے اپنے مقامات پر برقرار ہو جائیں گے تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کہیں گے۔ فلاں دوزخی ہم سے حق باتوں پر جھگڑتا تھا۔ نہ معلوم اب وہ کس حالت میں ہے؟ پس ایک کھڑکی کھول دی جائے گی

اور بیانی میں قوت عطا کی جائے گی کہ جس سے وہ دوزخی بہت آہ و زاری کر کے جنت کے کھانے اور پانی طلب کرے گا۔ یہ جواب دیں گے کہ جنت کی نعمتوں کو خدا نے تم پر حرام کر دیا ہے مگر یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کہاں تک سچا پایا؟ کیونکہ ہم نے تو تمام وعدوں کو بے کم و کاست بجا اور درست پایا۔ وہ نہایت ہی پشیمانی اور عاجزی ظاہر کرے گا، اس کے بعد اہل جنت کھڑکی بند کر لیں گے۔

## اہل جنت اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے

پھر اہل جنت اپنے اہل و عیال کی حالت دریافت کریں گے۔ فرشتے جواب دیں گے کہ وہ سب حسب اعمال جنت میں اپنے اپنے مکانوں میں موجود ہیں۔ اہل جنت کہیں گے کہ ہم کو بغیر ان کے کچھ لطف نہیں رہا۔ انہیں ہم تک پہنچاؤ۔ ملائکہ جواب دیں گے کہ یہاں ہر شخص اپنے عمل کے موافق رہ سکتا ہے اس سے تجاوز کا حکم نہیں۔

پس وہ خدائے قدوس کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ خداوند تجھ پر روشن ہے کہ ہم جب تک دنیا میں تھے تو کسب معاش کرتے تھے اور اس سے اپنے اہل و عیال کی پرورش ہوتی تھی اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتے تھے اب جب تو نے بلا مشقت ایسی ایسی نعمتوں عنایت فرمائیں تو ہم ان کو کیوں کر محروم کر سکتے ہیں، اُمیدوار ہیں کہ ان کو ہم سے ملا دیا جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ”ان کی اولادوں کو ان تک پہنچا دو تا کہ ان کو کسی کی بات کی تنگی نہ ہو۔“ پس اہل و عیال کو ان سے ملا دیا جائے گا اور ان کو اصلی اعمال کی جزا کے علاوہ والدین کے طفیل سے بہت کچھ عطا ہوگا۔ اسی عنایت کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے:

الْحَقْنَآبِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (سورہ طور)

ہم اہل جنت سے ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔

اندرونِ جنت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجاتِ عالیہ کے لئے



شفاعت کرنے کا حق حاصل ہوگا اور لوگ جتنی زیادہ حضورؐ سے محبت رکھتے ہوں گے اتنے ہی مراتب اپنے استحقاق سے زیادہ حاصل کریں گے۔

## موت کو موت آ جائے گی

جب تمام لوگ دوزخ و جنت میں داخل ہو چکیں گے تو جنت و دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہ اے اہل جنت! جنت کے کناروں پر آ جاؤ اور اے اہل دوزخ! دوزخ کے کناروں پر آ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے کہ ہم کو تو ابلا بادل کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا ہے۔ اب کیوں طلب کرتے ہو؟ اور اہل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ شاید ہماری مغفرت کا حکم ہوگا۔ پس جس وقت سب کناروں پر آ جائیں گے تو ان کے مابین موت کو چت کبڑے مینڈھے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ ”کیا اس کو پہچانتے ہو؟“ سب کہیں گے ”ہاں“ جانتے ہیں کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہو۔ اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے۔ پھر وہ منادی آواز دے گا اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں اور اے اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ خوشی میں مر جاتے اور اہل دوزخ اس قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ غم کے مارے مر جاتے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے پیچھے بڑے بڑے آتش شہتیر بطور پشتیان لگا دو تا کہ دوزخیوں کے نکلنے کا خیال بھی نہ رہے اور اہل جنت کو جنت میں ابلا بادل تک رہنے کا یقین و اطمینان ہو جائے۔

(صحیح بخاری و مسلم)

## قرآن کریم میں جنت کی صفات

احمد و دارمی میں ہے جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ اس کی سڑکیں اور پٹریاں زمر دیا قوت اور

بلور سے بنے۔ اس کے باغیچے نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں بجائے بجزی، زمر، یاقوت اور موتی وغیرہ پڑے ہیں، اس کے درختوں کی چھالیں طلائی و نقرئی ہیں، شاخیں بے خار و بے خزاں، اس کے میوؤں میں دنیا کی نعمتوں کی گونا گوں لذتیں ہیں، ان کے نیچے ایسی نہریں ہیں جن کے کنارے پاکیزہ اور جواہرات سے مرصع ہیں، ان نہروں کی چار چار قسمیں ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے:

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ.

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ.

وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ.

وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

قوله تعالى إِنَّ الْأَنْهَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَا تَفْجِيرًا.

قوله تعالى وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا

قوله تعالى وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. (سورة المطففين)

قوله تعالى يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكَ (سورة المطففين)

قوله تعالى وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. (سورة الدهر)

حاصل کلام: ایک نہروہ کہ جس کا پانی نہایت شیریں و خنک ہے۔ دوسری وہ جو ایسے دودھ سے لبریز ہیں جس کا مزہ نہیں بگڑتا۔ تیسری ایسی شراب کی ہیں جو نہایت فرحت افزا و خوش رنگ ہے۔ چوتھی نہایت صاف و شفاف شہد کی ہیں۔

علاوہ ان کے تین قسم کے چشمے ہیں، ایک کا نام ”کافور“ ہے جس کی خاصیت خنکی ہے۔ دوسرے کا نام ”زنجبیل“ ہے جس کو ”سلسبیل“ بھی کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت گرم ہے مثل چائے و قہوہ۔ تیسرے کا نام تسنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لئے مخصوص ہے

لیکن اصحابِ یمن کو بھی جو اُن سے کمتر ہیں ان میں سے سر بہر گلاس مرحمت ہونے کے جو پانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑہ کی طرح اس میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر پیا کریں گے اور دیدارِ الہی کے وقت ایک اور چیز عنایت ہوگی جس کا نام شرابِ طہور ہے جو ان تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔

## جنت کے درخت، لباس اور زیور

باوجود نہایت بلند و بزرگ و سایہ دار ہونے کے جنت کے درخت اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ کو رغبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کو توڑ لیا کرے گا۔

جنت کے فرش و فرش و لباس وغیرہ نہایت عمدہ و پاکیزہ ہیں اور شخص کو وہی لباس عطا کیے جائیں گے جو اس کو مرغوب ہوں گے اور مختلف اقسام کے لباس ہوں گے۔

سندس استبرق، اطلس، زربفت وغیرہ اور بعض ان میں سے ایسے نازک و باریک ہوں گے کہ ستر تہوں میں بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی نہ آفتاب کی شعائیں نہ تاریکی، بلکہ ایسی حالت ہے جیسے طلوعِ آفتاب سے کچھ پیشتر ہے مگر روشنی میں ہزار ہا درجے اس سے برتر ہوگی جو عرش کے نور کی ہوگی نہ کہ چاند سورج کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر وہاں کا لباس وزیور زمین پر لایا جائے تو اپنی چمک دمک سے جہان کو اس قدر روشن کر دے گا کہ آفتاب کی روشنی اس کے سامنے ماند ہو جائے گی۔

جنت میں ظاہری کثافت و غلاظت وغیرہ نہ ہوگی یعنی پیشاب پاخانہ، حدث، تھوک، بلغم، ناک کا رینٹ، پسینہ و میل بدن وغیرہ بالکل نہ ہوں گے، صرف سر پر بال ہوں گے اور ڈاڑھی مونچھ و دیگر قسم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے ہیں بالکل نہ ہوں گے اور نہ کوئی بیماری ہوگی اور باطنی کثافتوں یعنی کینہ، بغض، حسد، تکبر، عیب جوئی اور غیبت وغیرہ سے دل صاف ہوں گے۔ سونے کی حاجت نہ ہوگی اور خلوت و استراحت کے لئے پردہ والے مکانوں میں رہا کریں گے۔ ملاقات اور ترتیبِ مجلس

کے وقت صحن اور میدانوں میں آیا کریں گے۔

(بخاری و مسلم)

## ازدواجی زندگی، سواریاں اور مکانات

”مسلم“ میں ہے کہ ان کی غذاؤں کا فضلہ خوشبودار ڈکاروں اور معطر پینے سے دفع ہوا کرے گا، جس قدر کھائیں گے ہضم ہو جایا کرے گا۔ بد ہضمی اور گرانی شکم کا نام تک نہ ہوگا۔ جماع میں نہایت لطف حاصل ہوگا اور انزال ایک نہایت فرحت بخش ہوا کے نکلنے سے ہوا کرے گا نہ کہ منی سے، جماع کے بعد عورتیں پھر باکرہ ہو جایا کریں گی مگر بکارت کے ازالہ کی تکلیف اور خون وغیرہ کے نکلنے سے پاک ہوں گی۔ سیر و تفریح کے واسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہوں گے جو ایک گھنٹہ میں ایک مہینہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔

جنت میں ایسے تہے برج اور بنگلے ہوں گے جو ایک ہی یا قوت یا موتی یا مردود دیگر جواہرات سے رنگ برنگ بنے ہوں گے جن کی بلندیاں و عرض ساٹھ ساٹھ گز ہوں گی، کیوں کہ قاعدہ ہے کہ کسی مکان کی بلندی و عرض یکساں نہ ہو تو مکان ناموزوں ہوتا ہے۔ اہل جنت کی خدمت، راحت، آسائش و آرام وغیرہ کے لئے حور و غلمان و ازواج موجود ہوں گے۔

## جنت کے پیارے پیارے نام

جنت آٹھ ہیں جن میں سے سات تو سکونت کے لئے مخصوص ہیں اور آٹھویں دیدار الہی کے لئے جس کو بارگاہ الہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جنتوں کے نام حسب ذیل ہیں:

جنت الماویٰ، دار المقام، دار السلام، دار الخلد،

جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت العدن.

جنت الفردوس تمام جنتیوں سے برتر و اعلیٰ ہے اور اس میں سب سے بہترین طبقہ جنت العدن ہے جہاں تجلیات الہی نمودار ہوتی ہیں اور گونا گوں بے اندازہ نعمتیں

عطا فرمائی جاتی ہیں۔ مگر آٹھویں جنت کے نام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ علیین ہے لیکن قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ علیین اہل جنت کا دفتر اور مقرب فرشتوں اور نبی آدمی کی حاضری کا مقام ہے نہ کہ طبقہ جنت۔ ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ كِتَابٌ مَّرْفُومٌ

آپ کیا جانے علیین کیا ہے وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔

بعض علماء نے اس کو جنت الکلیف کہا ہے اور اس کی تائید ترمذی و ابن ماجہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ”مسلمان مشک کے ٹیلوں پر جمع ہوں گے پس ایک ہوا چلے گی کہ جس سے مشک اُڑ کر ان کے کپڑوں اور چہروں پر پڑے گا اور ان کی معطری پہلے سے دوگنی ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں خدائے قدوس کی تجلیات کا ظہور ہوگا جس سے ہر شخص کو بقدر استعداد انوار و برکات مرحمت ہوں گے اور کلام بھی ہوگا۔ اس فقیر کے خیال میں اس کا نام مقعد صدق معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

(سورۃ القمر)

جو پرہیزگار ہوں گے وہ بہشت کے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ سچی عزت کی جگہ بادشاہ (دو جہاں) قادر مطلق کے مقرب ہوں گے۔

یہی مفہوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے درجے عدد میں اتنے ہیں جتنی کلام مجید کی آیتیں اور تمام درجوں سے برتر و بالا بخاری و مسلم کے مطابق وہ درجہ ہے کہ جس کا نام وسیلہ ہے اور یہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا رہنے والا وزیر کا حکم رکھتا ہے کیوں کہ اہل جنت میں سے کسی کو کوئی نعمت بغیر اس کے طفیل کے نہ پہنچے گا اور یہ طبقہ اس طرح ایک دوسرے پر حائل نہیں ہیں جیسے مکانوں کی چھتیں بلکہ ان تمام کی چھت عرش الہی ہے اور یہ اس طریقہ پر ہیں جیسے باغ کے نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ اور ان

درجات کی وسعت پر سوائے رب العزت کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور نیچے کے درجے والوں کو اوپر کے درجے والے اس طرح نظر آئیں گے گویا آسمان کے کناروں پر ستارے ہیں۔ اس قدر معلوم رہے کہ جنت المادویٰ سب سے نیچے، جنت العدن وسط میں اور جنت الفردوس سب سے اوپر ہے۔ (بخاری و مسلم)

اہل جنت میں سے ادنیٰ شخص کو دنیاوی آرزوؤں سے دس گنا زیادہ مرحمت ہوگا اور بعض روایتوں میں ہے کہ ادنیٰ اہل جنت کی ملک حشم و خدم اسباب لذت وغیرہ وغیرہ اسی سال کی مسافت کے برابر پھیلاؤ میں ہوں گے اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں گے کہ جس وقت اس کو چھتی توڑے گا تو اس میں سے نہایت خوبصورت پاکیزہ عورت مع لباس فاخرہ و زیور کے برآمد ہوگی اور اپنے مالک کی ہم نشین و خدمت گزار ہوگی۔

## اہل جنت کے قد و قامت اور خوبصورتی

بخاری و مسلم میں ہے اہل جنت کے قد حضرت آدمؑ کی طرح ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہوں گے اور دیگر اعضاء بھی انہیں قد و قامت کی مناسبت سے ہوں گے۔ بلحاظ صورت نہایت حسین و جمیل ہوں گے اور ہر ایک عین شباب کی حالت میں ہوگا۔ ذکر الہی اس طرح بے تکلف دل اور زبانوں پر جاری ہوگا جیسے کہ دنیا میں سانس اور جیسا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کو لذت حاصل ہوگی اس طرح سے باطنی لذات یعنی انوار و تجلیات الہی بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ مثلاً جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سبحان اللہ ہے۔ جیسا کہ ذائقہ میں لذت دیتا ہے اسی طرح خدا کی تزیین و تسبیح کی لذت سے آگاہ کرتا ہے، جنت کی سب سے بہتر و افضل نعمت ”دیدار الہی“ ہے۔

## اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دربار عالی شان

اس مضمون کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد اور ترمذی سے نقل کیا گیا

دیدارِ الہی سے مشرف ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی چار قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جو سال بھر میں ایک مرتبہ، دوسرے وہ جو ہر جمعہ کو۔ تیسرے وہ جو دن میں دو مرتبہ مشرف ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صبح و عصر کی نماز نہایت خضوع و خشوع سے پڑھنے سے اس دیدار میں بڑی مدد ملتی ہے۔ چوتھی جماعت اخص الخاص بمنزلہ غلمان و خدام ہر وقت بارگاہِ الہی میں حاضر رہیں گے۔ طریقہ دیدار یہ ہوگا کہ سات طبقوں کے اوپر آٹھویں طبقہ میں ایک کشادہ وسیع میدان زیر عرش موجود ہے۔ وہاں نور، زمرہ، یاقوت، موتی، چاندی اور سونے وغیرہ کی کرسیاں حسب مراتب رکھی جائیں گی اور جن لوگوں کے لئے کرسیاں نہیں ہیں ان کو مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے۔

ہر شخص اپنی جگہ نہایت خوش و خرم ہوگا دوسروں کے مراتب کی افزودنی کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا خیال نہ ہوگا اور اسی اثنا میں ایک نہایت فرحت افزا ہوا چل کر ان پر ایسی ایسی پاکیزہ خوشبوئیں چھڑک دے گی جو انہوں نے نہ کبھی دنیا میں اور نہ بہشت میں دیکھی ہوں گی۔ اس وقت خداوند کریم ان پر اس طور سے جلوہ افروز ہوگا کہ کوئی شخص ایک دوسرے کے درمیان حائل نہ ہوگا اور ہر شخص کو اس قدر قرب حاصل ہوگا کہ وہ اپنے دل کے رازوں کو اس طرح عرض کرے گا کہ دوسرے کو خبر نہ ہوگی اور خدائے قدوس کے مطابق سرا و جہرا سنے گا اسی اثنا میں حکم ہوگا کہ شراب طہور اور نہایت لذیذ نعمتوں سے ان کو سرفراز کرو۔ دیدارِ الہی دیکھنے والوں کو اس قدر استغراق ہوگا کہ لذت دیدار کے سوا تمام چیزوں کو بھول جائیں گے جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو راستہ میں ایک بازار دیکھیں گے کہ جس میں ایسے ایسے تحفے و تحائف مہیا ہوں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے نہ کان نے سنے ہوں گے۔ جو شخص جس کا طالب ہوگا مرحمت کی جائے گی۔

## کانوں کی لذت کا سامان

جنت میں تین قسم کے راگ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت ہوا چلے گی تو

درخت طوبیٰ کے ہر پتے و شاخ سے خوش الحان آوازیں سنائی دیں گی کہ جس سے سامعین مجھ ہو جایا کریں گے، اور جنت میں کوئی گھر ایسا نہ ہوگا کہ جس میں درخت طوبیٰ کی شاخ نہ ہو۔

دوم یہ کہ جس طرح شادی بیاہ وغیرہ میں ترتیب اجتماع و سماع کرتے ہیں اسی طرح جنت میں میں حوریں اپنی خوش الحانیوں سے ہر روز اپنے شوہروں کو محظوظ کریں گی۔

تیسرے یہ کہ دیدار الہی کی بوقت بعض مطرب خوش الحان بندوں کو جیسے حضرت اسرافیل و حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ خدا کی پاکی بیان کرو۔ اُس وقت ایک ایسا عجیب لطف حاصل ہوگا کہ تمام سامعین پر وجد طاری ہو جائے گا۔ (ترمذی شریف)

## جنت میں خدمت گزار کیسے ہوں گے؟

خدام اہل بہشت تین قسم کے ہوں گے۔ ایک ملائکہ جو خدائے قدوس اور ان کے مابین بطور قاصد ہوں گے۔ دوم غلمان جو حوروں کی طرح ایک جدا مخلوق ہیں، وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور مثل کھمرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف خدمت کرتے پھریں گے۔ یہ اس ارشاد الہی کا مفہوم ہے:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَمَا نَهْمُ لَوْلُو مَكْنُونٌ ۝ (الطور)

تیسرے اولاد مشرکین جو قبل از بلوغ انتقال کر چکی ہوگی، بطور خدام رہیں گے۔ بعض لوگ بوجہ اس کے کہ ان کی نیکیاں و بدیاں برابر ہوں گی نہ تو جنت کے مستحق ہوں گے نہ دوزخ کے بلکہ پل صراط سے اترتے ہی جہنم کے کنارے پر روک دیے جائیں گے۔ نیز وہ لوگ جن تک دعوت پیغمبران نہ پہنچی ہوگی اور انہوں نے نہ تو نیک اعمال کیے ہوں گے نہ کوئی بدی و شرک کیا ہو بلکہ چوپایوں کی طرح سے کھانے پینے اور جماع وغیرہ میں عمر بسر کرتے رہیں ہوں گے اور وہ لوگ بھی جو فسادِ عقل و جنون کی وجہ سے حق اور باطل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہے ہوں، اس مقام میں جس کا نام اعراف ہے تا اختتامِ روزِ حشر کہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے، رہیں



گے اور دخولِ جنت کی توقع رکھتے ہوں گے پھر ایک عرصہ کے بعد محض فضل الہی کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بمنزلہ خدام رہیں گے اور جنوں میں جو کافر ہوں گے وہ دوزخ میں رہیں گے اور جو صالحین ہوں گے وہ دائمی راحت میں رہیں گے۔ کیوں کہ جن و انس دونوں مکلف بالشرع ہیں جیسکہ سورہ حُجُن میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اس سورہ میں اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو تثنیہ کے صیغہ سے مخاطب فرمایا ہے:

فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا  
الضَّالِّينَ ۝ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝  
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۝ (سورہ الرحمن)

اور پرندوں اور چوپایوں کا بھی حشر ہوگا اسی طرح پر کہ مظلوم ظالم سے بدلہ لے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ  
إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ  
شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

جب ایک دوسرے سے بدلہ لے چکیں گے تو ان کو خاک کر دیا جائے گا مگر حسب ذیل چند اشیاء کو فنانہ ہوگی۔ مثلاً جانوروں میں سے حضرت اسماعیلؑ کا دنبہ، حضرت صالحؑ کی اونٹنی، اصحابِ کہف کا کتا، نباتات میں سے اسطوانہ حنّانہ (یعنی وہ ستون کہ منبر بننے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس کے سہارے سے وعظ فرمایا کرتے تھے) مکانات میں سے خانہ کعبہ، کوہ طور، صخرہ بیت المقدس اور وہ جگہ جو حضور انور صلعم کے روضہ مقدسہ اور مابین منبر واقع ہے۔ ان کو مناسب صورتوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اہل جہنم اپنے اعمال بد کا نتیجہ بھگتنے کے لئے ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں گرفتار رہیں گے اور اہل جنت اپنی نیکیوں کے صلہ ہمیشہ جنت میں عیش

کریں گے اور جنت تو نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ

ان نعمتوں کی توصیف تو یہ ہے کہ آج تک انہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ ہی کسی کان نے سنا۔ فرمایا:

وَلَا خَطَطَىٰ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ

اور نہ ہی کسی دل انسانی پر یہ بات گزری ہے کہ وہ حیثیت کس طرح کی ہے۔  
آخر میں دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور قبر و حشر کے  
خوف سے نجات دے کر جنت میں پہنچا دے اور ہمیشہ اپنی خوشی اور رضامندی کے  
کاموں میں مصروف رکھے۔

☆☆☆☆☆☆



# آثار قیامت

(حصہ دوم)

## فتنہ دجال کی حقیقت

﴿قرآن وحدیث کی روشنی میں﴾

جس میں دجال کی حقیقت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق تحقیقی مضامین شامل ہیں۔ اور ساتھ ساتھ منکرین حدیث کے پیدا کئے ہوئے شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے۔

تحریر و ترتیب

مولانا حافظ محمد اسلم زاہد

فاضل وفاق المدارس العربیہ پاکستان

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہم نے گزشتہ صفحات میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم مستند اور انتہائی جامع فارسی کتاب کا ترجمہ ہدیہ قارئین کیا ہے۔ اس تحریر میں حضرت شاہ صاحب کی محدث یگانہ شخصیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام اور دجالی فتنہ کا تذکرہ اور ثبوت زیر قلم لے آنا ہی ایک مسلمان کے لئے کافی ہے لیکن ان سب کچھ دلائل و براہین کے باوجود امت کے ان اجماعی مسائل میں کچھ لوگ شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے ہم ان مسائل پر کچھ مزید روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں ہمیں یہ صفحات بڑھانے پر ایک ایسی تحریروں نے مجبور کیا ہے جو انکار حدیث کا ایک نیا روپ پیش کرتی ہے۔ خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر آمد، قتل دجال اور نفاذ شریعت کا انکار۔

حدیث مبارکہ کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے ہمیں ان کی بے شمار باتوں سے اختلاف ہے۔ جبکہ وہ تو بیک وقت بخاری و مسلم تک بھی بے اعتمادی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہیں مشورے بھی دیتے ہیں کہ ان حضرات کو احادیث نزول عیسیٰ، قتل دجال اور قیامت کی دیگر بڑی بڑی نشانیوں کے بیان والی تمام احادیث نہ لکھنی چاہئیں ساتھ ان احادیث میں نقائص ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ جس سے حدیث رسول کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی متاثر نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ دجال کی چال بازیوں میں جو لوگ آج بھی ملوث ہو رہے ہیں وہ ایسے لکھاریوں کی تحریروں کو بڑی تحقیق کا درجہ دے رہے ہیں اور اپنے نفس کو مطمئن کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ساتھ ہیں جو حق والوں سے ملے گا اسے بچائیں گے اور جو امت کے عقائد کو خیر باد کہے گا اس سے اللہ تعالیٰ خود نپٹ لیں گے۔

آگے صفحات میں قرب قیامت کے اہم عقائد نزول عیسیٰ، ظہور مہدی اور قتل دجال و فتنہ دجال کے متعلق ایک ”تحقیقی کاوش“ کا مطالعہ کیجئے۔

## یہ کتاب کیوں لکھی گئی۔۔۔

قرب قیامت میں کیا کچھ ہوگا؟ اس سوال کے جواب کیلئے بہت سی کتابیں لکھی اور پڑھی جا رہی ہیں اور ممکن ہے بڑی نشانیوں (ظہور امام مہدی علیہ السلام خروج دجال اور نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ تحریر جاری رہے۔) آج جب ہم اسلامی کتب خانوں کی خوبصورت الماریوں یا لائبریریوں کے ایوانوں میں مطالعاتی دورہ کرتے ہیں تو ہمیں کتب بینی اور اپنے گرد پیش کے حالات کو سامنے رکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ دجال آچکا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں کچھ لوگ پورے شدو مد کے ساتھ احادیث دجال کو غیر معتبر قرار دینے کی سعی لاحقہ میں مصروف ہیں، تو کچھ اس کے تمام تر خدو خال کتاب و سنت سے واضح کر کے اُمت کو اس کے فتنوں سے بچا رہے ہیں اور کچھ سرے سے اس کے وجود کے ہی منکر ہیں اور اُمید ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاف کرنے کے موذ میں نہیں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ان کی قبر کشمیر میں ہے کوئی کہیں اور کوئی جعفرائی نقشے اٹھائے پھر رہا ہے کہ قبر یہاں ہے۔ اور اس تحقیق کی آڑ میں وہ نزول عیسیٰ کے متعلق لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر رہا ہے، انہی دجالی فتنوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ راویوں کی چھان پھٹک کے ”تحقیقی کام“ کو قوم کے سامنے لے آتے ہیں اور ان سب حشر سامانیوں کو ایک حادثہ قرار دیتے ہیں، ادھر قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر وہ تشریحات کی جاری ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کا کوئی تصور ہی نہ رہے۔ یہ سب کچھ سلف صالحین سے بے اعتنائی کی وجہ سے ہے۔

اپنے اور اہل خانہ کے ایمان کو بچانے کیلئے جو لوگ فکر مند ہیں وہ دجال کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں خود بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں تک بھی وہ دعائیں پہنچا رہے ہیں۔ سورہ کہف ہر مسجد اور ہر گھر کی زینت بن رہی ہے، تو کچھ افراد ان سب باتوں کو مولوی کی بڑ، دقیانوس کی ہٹ دھرمی اور بنیاد پرست کا جنون شمار کر رہے ہیں۔ مذہب کا خیر باد کہہ رکھا ہے، انہیں تو صرف اچھے کپڑوں اعلیٰ سواریوں اور

مجلات سے غرض ہے اس کے لئے انہیں جو بھی کرنا پڑے اور یہ اسباب دنیا و جانی نظریات والوں کیلئے آج آسانی سے مہیا ہو رہے ہیں۔

تصور کیجئے! یہ سب کچھ وجود میں آ گیا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اہل ایمان کی جان میں جان آئی۔ اب بھی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی تائید نصیب ہے۔ زیر نظر تحریری کاوش ان خوش نصیبوں میں شامل افراد کی تائید ہے۔ ادھر اہل ایمان کو ایسا لٹریچر مفت مہیا کیا جا رہا ہے کہ جس میں قرب قیامت کی علامات کو عقیدے سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اس بڑی شد و مد سے تحریری کوششیں شروع ہیں، اس چال بازی کو سمجھنے کیلئے جب ان کتب کا مطالعہ کیا گیا اور ان فتنہ پردازوں کے مضامین کو دیکھا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آج فتنہ انکار حدیث اپنے نئے چولے میں ہے اور اسے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے قارئین کو ہم پہلے مولانا عبداللہ طارق صاحب کی تحریر کے ذریعہ اس نئے لباس کا تعارف ضروری سمجھتے ہیں جو انہوں نے مدارس کے ترجمان ”وفاق المدارس“ کے لئے لکھی ہے۔

قارئین! انسانوں کی طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی بنائی ہیں، ایک اطاعت و عبادت اور فرمان برداری کا ایسا شوق فراداں ہے کہ وہ ایک حکم کی تعمیل کر کے اگلے حکم کا منتظر و مشتاق رہتا ہے کہ اب کیا حکم ملتا ہے کہ اس کی بھی تعمیل کروں؟ ابھی فرض نماز پڑھی ہے اب منتظر ہے کہ اب فلاں نفل نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، وہ بھی پڑھ لوں، جس کو علامہ اقبالؒ نے اپنے فارسی کلام میں کہا ہے کہ:

تب دتاب یکے اللہ اکبر نہ گنجد در نماز ہنجگانہ

(ایک بندہ خدا کی حرارت و بے قراری کا عالم اللہ اکبر یہ ہے کہ وہ صرف پانچ نمازوں میں نہیں سماتا) یعنی اس کے جذبہ مناجات اور ذوق سجود کو مزید کچھ نفل نمازوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

جب کہ دوسری طرف ایک سست و کاہل شخص ہے کہ اس کو لازمی احکام اور ضروری اور کم سے کم فرائض کا انجام دینا بھی دشوار اور بارگراں ہے۔ یہ ذمہ داریوں سے فرار کا مزاج کچھ دین ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ مزاج ہر جگہ

کام کرتا ہے کہ جو کام بہت ضروری ہو بس وہ کر لیں، جتنی کم سے کم شفقت سے کام چل سکے، بس اتنی ہی اٹھالیں۔ جتنا کم سے کم خرچ کرنا پڑے، بس اتنا ہی کر لیں وغیرہ۔

اسی کمزوری کے تحت کچھ عرصہ قبل بعض لوگوں نے حدیث نبویؐ کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ حدیث کو دین میں کوئی تشریحی اہمیت حاصل نہیں، وہ دین کا حصہ نہیں، بس قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ دین ہے، قرآن مجید کا حکم ہی لائق تسلیم ہے، حدیث سے جو کچھ ثابت ہو وہ دین و شریعت نہیں ہے۔ اس طرح وہ دین کی بے شمار باتوں سے دامن جھٹک کر آزاد ہو گئے۔ اس فتنے کا علماء اسلام نے بھرپور مقابلہ کیا اور متعدد کتابوں اور مضامین مضبوط دلائل کے ساتھ لکھے گئے۔

اب وہ ”فتنہ انکار حدیث“ اس شکل میں تو تقریباً ختم ہے یاد بگیا ہے کہ لوگ برملا حدیث نبویؐ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوں، لیکن اس فتنے نے اب ایک نئے روپ اور تبدیل شدہ چولے میں دوبارہ جنم لیا ہے۔ شعر

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں

اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لات و منات

اب یہ فتنہ ایک خوب صورت نام کے ساتھ آیا ہے، پہلے اس کی شکل رد و وجود اور اباء و انکار کی تھی، اب حدیث ہی کے الفاظ و تعبیرات استعمال کر کے اور محدثین ہی کی اصطلاحات بول کر اور بظاہر حدیث آپؐ اور آپ کے صحابہ ہی کے حامی بن کر حدیث کے انکار کی مہم چلائی جا رہی ہے۔

یہ فتنہ ہے ”ضعیف حدیث کے قبول کرنے سے انکار“ کا، اس میں آدمی بظاہر یہ گستاخی دے ادبی تو نہیں کرتا کہ وہ صاف صاف ارشاد نبویؐ کو رد کر رہا ہے۔ اس لئے کہ ضعیف حدیث بھی بلا شک و شبہ ارشاد نبویؐ ہی ہے۔

حدیث کی اصطلاح میں ضعیف حدیث وہ کہلاتی ہے جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کی تمام صفتیں نہ پائی جا رہی ہوں، یعنی حدیث کا بیان کرنے والا راوی اپنے حافظے، اپنے دین و دیانت اور اپنی فہم و بصیرت کے لحاظ سے اگر ہر طرح بالکل



درست اور قابل اعتماد ہے اور اس کی بیان کردہ روایت دیگر قابل اعتماد لوگوں کی بیان کردہ حدیثوں کے خلاف بھی نہیں ہے نہ کوئی علت خفیہ تا حد اس میں پائی جاتی ہے تو روایت (دیگر قابل اعتماد) صحیح ہے اور اگر یہ تمام باتیں یا ان میں سے کچھ باتیں اس حدیث کی سند میں نہیں پائی جائیں تو وہ ضعیف ہے اور ان دونوں کے درمیانی حیثیت ”حسن“ کی ہے۔ (دیکھئے مقدمہ مشکوٰۃ ص ۵، از شیخ عبدالحق محدث دہلوی مختصراً)

پھر اس میں بھی یہ ہے کہ ایک حدیث خود اپنی سند کے لحاظ سے ”ضعیف“ ہوتی ہے۔ لیکن دیگر متعدد سندوں سے وہی الفاظ یا اس کا مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ ایسی حدیث حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ کہلاتی ہے یعنی اپنی سند سے نہ سہی دیگر اسباب سے یہ صحیح حدیث یا حسن حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ (حوالہ بالا)

اس مختصر مضمون میں حدیث کی فنی بحثیں نہیں لکھی جاسکتیں، لیکن یہ بہر حال طے ہے کہ حدیث ضعیف بھی ارشاد نبویؐ اور ثابت من السنہ حدیث ہی ہوتی ہے اور لفظ ضعیف یہاں کمزور اور بے ثبوت بات کے معنی میں ہرگز نہیں ہے۔

جو لوگ حدیث نبویؐ کا تھوڑا سا بھی فنی ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف تاریخ کے مقابلہ میں سو گنا مستند و معتبر ہے اس لئے کہ حدیث ضعیف کا راوی بہر حال مومن ہے، سچا ہے، بد دین نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ راوی حدیث میں جو خوبیاں ہونی چاہئیں وہ اس معاملے میں کم درجے کا آدمی ہے، جب کہ ہم لوگ تاریخ کو بے جھجک قبول کرتے ہیں اور ضعیف حدیث پر ناک منہ بناتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے امت کے ائمہ حدیث امام احمد بن حنبلؒ اور دیگر معروف ائمہ فن حدیث، ضعیف حدیث کو بلا تکلیف قبول کرتے آئے ہیں، مسند احمد اور صحاح ستہ وغیرہ میں بے شمار حدیثیں ضعیف ہیں، خود بخاری شریف بھی ضعیف حدیثوں سے بالکل خالی نہیں ہے، جیسا کہ اہل فن سے مخفی نہیں ہے۔

فرق یہ ہے کہ حلال کے فیصلے کیلئے یا عقائد اور صفات الہی کے ثبوت کیلئے ضعیف حدیث معتبر نہیں۔ لیکن مواعظ و قصص اور اعمال خیر کی فضیلت یا عتاب وغیرہ

کے بارے میں ہمیشہ ائمہ حدیث، ضعیف حدیث قبول کرتے آئے ہیں۔ اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا۔

آج حال یہ ہے کہ دور حاضر کے بعض علماء نے ضعیف حدیثوں کو متقدمین کے حدیثی ذخیروں میں سے الگ کر کے ان کے مستقل الگ مجموعے تیار کر دئے ہیں کہ فلاں کتاب کی صحیح حدیثیں یہ ہیں اور اسی کتاب کی ضعیف حدیثیں یہ ہیں کہ اس ذہن کے لوگوں کے سامنے جب کسی دینی مضمون پر کوئی ضعیف حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ اس حقارت سے اس کو رد کرتے ہیں کہ ”یہ تو ضعیف حدیث ہے“ گویا ناقابل التفات چیز ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

جب کہ یہ مشاہدہ ہے کہ خود ان کے معتمد علماء کا قول اگر کسی بات کی تائید میں پیش کر دیا جائے تو وہ اس کو بخوشی قبول کر لیتے ہیں، گویا ضعیف حدیث ان کے معتمد عالم کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔

### قالی اللہ المشتکی

یہ ایسی دیدہ دلیری اور ایسی سنگین (بے احتیاطی) ڈھٹائی ہے کہ امت مسلمہ میں آج تک کوئی اسکی جرأت نہیں کر سکا تھا۔

دوسری انتہا: اس کے ساتھ دوسری طرف یہ سنگین بے احتیاطی بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ فضائل کے نام پر موضوع و منکر روایات کو بھی درج کر لیا گیا ہے، جبکہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث موضوع کا ذکر کرنا قطعاً حرام ہے۔ الایہ کہ اس کی حقیقت بیان کرنے اور اس کا موضوع و من گھڑت ہونا واضح کرنے کے لئے لکھا جائے۔ جیسا کہ بہت سے محدثین نے احادیث موضوع کے مستقل مجموعے تحریر کئے ہیں۔

صحیح طریقہ: صحیح طریقہ اور مسلک اعتدال یہ ہے کہ عقائد، صفات الہی، احکام حلال و حرام کے بارے میں تو جیسا کہ ہمیشہ سے اسلاف کا عمل رہا ہے کتاب اللہ یا صرف حدیث صحیح یا حسن کو دلیل بنایا جائے اور وعظ و تذکیر، اعمال کے فضائل و اجرو ثواب وغیرہ کے لئے حدیث ضعیف کو بھی قبول کیا جائے، لیکن کبھی کبھی ضعیف

حدیث جب شدید درجے کی ضعیف ہو، یعنی اس کے کسی راوی پر سخت قسم کی جرح ہو تو ایسی روایت قبول کرنے میں احتیاط کی جائے، اس لئے کہ وہ ضعیف کی حد سے گزر کر موضوع کے قریب پہنچ گئی ہے اور جہاں تک موضوع و من گھڑت حدیث کا تعلق ہے تو اس معاملے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔

لیکن صرف ضعیف ہونا کسی حدیث کے رد کر دینے کیلئے کافی نہیں ہے۔ مطلقاً کسی حدیث کو اس کے ضعیف کی وجہ سے رد کر دینا رفتہ رفتہ فرار عن الدین کی راہ ہموار کرنا ہے، امید ہے کہ ملت کے باشعور حضرات اس مذکورہ خدشہ کو محسوس کریں گے اور ضعیف حدیث کو رد کر دینے اور پھر اس کے پس پردہ رفتہ رفتہ حدیث نبویؐ سے بغاوت کے پھینے کے چور دروازوں سے محتاط ہونے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح موضوع و من گھڑت بات اور غیر حدیث کو حدیث کہنا جرم ہے اور ہمیں اس معاملے میں احساس ہونا چاہیے اسی طرح حدیث نبویؐ کو غیر حدیث کہہ کر رد کر دینا بھی بڑی سنگین بات ہے۔ ہمیں دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنی چاہیے۔ (دفاق المدارس ستمبر ۲۰۰۵)

یہی سنگین غلطی ہمارے ان محققین کی طرف سے ہوئی ہے جنہوں نے احادیث کو ضعیف قرار دے کر حیات عیسیٰ و نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج دجال و ظہور امام مہدی علیہ السلام کا انکار کر دیا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام متعلقہ احادیث ضعیف ہی نہیں ہیں بالفرض ضعیف بھی ہوں تو مسلمہ اصولوں کی روشنی میں وہ تو اتر امت اور اجماع امت جیسے عظیم مؤیدات کی موجودگی میں ان کا ضعف برقرار نہیں رہتا۔

آپ پڑھیں گے کہ ہر دور میں ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ و تاریخ نے ان عقائد کو شریعت و ایمانیات کا حصہ قرار دیا ہے۔ دعا ہے کہ ہماری یہ کاوش کسی مسلمان کے ایمان کے برقرار رہنے کا ذریعہ بن جائے۔ آمین

آپ کا بھائی

محمد اسلم زاہد

مدرسہ بیت العلوم لاہور

۱۵ شعبان ۱۴۲۱ھ

حالا رارد۔ ذی شامنزل

کوٹ لکھپت۔ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ.

ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی بندگی اور خدمت دین کیلئے پیدا کیا ہے۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے نیک بندے جو کچھ لے کر آئے اس پر ہمارا ایمان ہو اور دل سے یقین ہو۔ دل میں جن باتوں کو یقین سے جمالینے سے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ انہی یقینی باتوں کو ایمان اور عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے توحید و رسالت اور دیگر اہم امور کے ساتھ ساتھ امور آخرت کا یقین بھی ہے۔ جن میں قیامت اور قرب قیامت کی اہم علامات بھی شامل ہیں۔

”دجال“ جس کی فتنہ انگیزیوں سے آنحضرت ﷺ نے خود بھی پناہ مانگی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اس سے پناہ مانگنے کے الفاظ تھے، ہمارے نبی علیہ السلام نے امت کو بھی تعلیم دی ہے وہ اس سے بچنے کی دعا کرتی رہے اور اس کی چالبازیوں کے تمام راستوں سے روکا ہے، وہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ جس کے وجود اور اسلامی عقیدے کا حصہ ہونے پر ہم سیر حاصل بحث کریں گے اور ان سوالات کے جوابات ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے جو مختلف مصنفین نے اٹھا کر مسلمانوں کے اس اہم عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنی اس کاوش کو اصول دین متین کے بیان کے ساتھ شروع کیا ہے۔ کیونکہ ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے کہ عقیدہ توحید و رسالت کو صحیح معنی و مفہوم کے ساتھ اپنائے رہے۔ نیز زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق اسلامی تعلیمات سیکھے اور اپنی زندگی کو اس نظام الہی کے مطابق گزارے، دوسروں کو اس کی دعوت دے اور اس نظام کے عملی قیام اور

غلبہ کیلئے انفرادی و اجتماعی کوشش کرتا رہے، تفہیم دین اسلام کے اصول و ضوابط کے بیان کے اس سلسلے میں ہم نے اپنے مادر علمی مدینہ منورہ کی عظیم یونیورسٹی کے فاضل اور عظیم مصنف، ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کی کتاب سے چند اصولی باتیں کی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے تمام دعووں (عقیدہ مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام) کو ثابت کرنے کے لئے ان ہی اصول کو سامنے رکھا ہے، اس لئے پہلے ان کی قدرے تفصیل لکھی جا رہی ہے وہ لکھتے ہیں۔

یہاں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ مسلمان کی یہ پوری زندگی کن اصولوں کی پابند ہو۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء ۵۹)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے اہل اختیار کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم میں باہم اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا لیا کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی خوشتر ہے۔

## فقہ اسلامی کے چار اصول

اس آیت کے ذیل میں امام رازیؒ لکھتے ہیں کہ دین کی سمجھ رکھنے والے

حضرات کا کہنا ہے کہ شریعت کی چار بنیادیں ہیں:

(۱) قرآن کریم (۲) سنت مطہرہ (۳) اجماع امت (۴) قیاس۔

أَطِيعُوا اللَّهَ سے مراد قرآن کریم ہے۔ أَطِيعُوا الرَّسُولَ سے سنت مطہرہ

ہے۔ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے اور

فَان تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

سے معلوم ہوا کہ قیاس حجت شرعیہ ہے۔ (تفسیر کبیر، رازی، ج ۱۰ ص ۱۳۳ تا ۱۳۷)

علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں:

وَاتَّفَقَ جَمَهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ أَصُولُ الْأَوَّلَةِ وَإِنْ

خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ إِلَّا أَنَّهُ شُدَّ

(ابن خلدون، مقدمہ ص ۲۰۳ طبع دارالبیان)

جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بنیادی دلائل یہی چار ہیں گوکہ اجماع و قیاس میں بعض کو اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی حیثیت شدوذ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔

(۱) قرآن:

یہ وہ ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی دنیوی و اخروی کامیابی کیلئے پیغمبر اسلام ﷺ پر اتارا۔ جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو اس کے مطابق گزارا انہیں متقین کا لقب دیا گیا۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ ۲)

یہ کتاب کہ جس میں کوئی شبہ نہیں۔ متقین کیلئے ہدایت ہے۔

مسلمان کی زندگی کے تمام معاملات میں قرآن کریم کو اولین اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (شوری ۱۰)

اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔

(۲) حدیث شریف:

حدیث سے مراد رسول اکرم ﷺ کے ارشادات و معمولات ہیں۔ نیز حضرات صحابہؓ کے وہ اعمال جو آپ ﷺ کی موجودگی میں ہوئے ہوں اور آپ نے اس پر کسی قسم کا انکار نہ کیا ہو اس مکمل مفہوم میں حدیث کا تعلق وحی الہی سے ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۲)

اور وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں نہیں کرتے، ان کا تو تمام تر کلام وحی ہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔

وحی قرآن اور وحی حدیث میں یہ فرق ہے کہ قرآن کریم کے مفہیم و الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ جب کہ حدیث میں صرف مفہوم و معنی کی وحی ہوتی تھی جس کا اظہار آنحضرت ﷺ کے ارشادات و معمولات سے ہوتا تھا۔ مختصر الفاظ میں قرآن کو وحی جلی اور حدیث ہی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بعض مسائل کا ذکر مفصلاً ہے۔ بعض کا اجمالاً اور بعض مسائل وضاحت سے بیان ہوئے ہیں۔ جبکہ بعض کا اشارات میں ہوا ہے تو حدیث میں قرآنی علوم و معارف کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (احمل ۴۴)

اور ہم نے آپ پر یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر ظاہر کر دیں جو ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔  
قرآن کریم میں حدیث شریف کے دلیل و حجت ہونے کو یوں بیان کیا گیا ہے

کہ:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (احشر ۷)

اور رسولؐ جو کچھ تمہیں دے دیا کریں وہ لیا کرو اور جس سے وہ تمہیں روک دین رک جایا کرو۔

الغرض معلوم ہوا کہ قرآن و سنت ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ سنت کو بھی دلیل مانتا ہے کہ اسی عقیدہ میں اس کی ہدایت و نجات کا راز ہے اور قرآن و سنت میں سے کسی ایک کی صحت کا انکار گمراہی اور تباہی کا باعث ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

تَرَكَتُ فِيكُمْ أُمْرَيْنِ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدَهُمَا،

كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي (حاکم)

میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جن کو تمہارے رکھنے کے بعد

تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت۔

### ۳۔ اجماع امت:

علماء و فقہاء امت کا کسی مسئلہ میں متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ واضح رہے اجماع کا مرتبہ قرآن و سنت کے بعد ہے۔ اجماع کا تعلق ایسے نئے مسائل سے ہے جن کے اصول و قواعد قرآن و سنت میں ذکر ہوں لیکن تفصیلات اور کیفیت کا تعین نہ ہو یا پھر ایک ہی مسئلہ کی کیفیت میں مختلف قسم کے نصوص وارد ہوں اور نسخ منسوخ کا تعین نہ ہو تو شواہد و قرآن کی روشنی میں علماء امت ایک جانب کو متعین کر دیتے ہیں، جیسے تکبیرات جنازہ کی تعداد میں اختلاف تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں چار تکبیروں پر حضرات صحابہ کا اجماع ہو گیا۔

الف: اجماع کی حجیت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ارشاد بانی ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (النساء: ۱۱۵)

اور جو کوئی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت کی راہ کھل چکی ہے، رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، ہم اسے کرنے دیں گے، جو کچھ وہ کرتا ہے اور پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

ب: ارشاد نبویؐ ہے۔

عن ابن عمرؓ أَنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُّ

اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ آپ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اور اللہ رب العزت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے جو جماعت سے



نکل گیا۔ وہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔

ج: ابن تیم فرماتے ہیں:

وَلَمْ يَزَلْ ائِمَّةُ الْاِسْلَامِ عَلٰى تَقْدِيْمِ الْكِتَابِ عَلٰى  
السُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ عَلٰى الْاِجْمَاعِ، وَجَعَلَ الْاِجْمَاعُ فِي  
الْمَرْتَبَةِ الثَّلَاثَةِ. (ابن تیم اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۳۸ مطابع الاسلام)

ہمیشہ سے تمام ائمہ اسلام کا یہی مذہب رہا ہے کہ قرآن کا درجہ سنت سے پہلے ہے اور سنت کا مقام اجماع پر مقدم ہے اور اجماع تیسرے نمبر پر ہے۔  
د: خود علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں:

والاجماع القطعی حجة ومنكره، كافر

وحید الزمان نزول الابرار ج ۱، ص ۶/ کہ اجماع حجت اور دلیل ہے اور جو شخص

اس کو حجت نہ مانے وہ کافر ہے۔ (نماز پندرہ)

چوتھی دلیل قیاس ہے جس سے ہم نے اس کتاب میں دلائل نہیں لئے اس لئے اس کی تفصیل کو چھوڑا جاتا ہے۔

قارئین! ان بنیادی شرعی اصولوں کا بیان اس لئے ضروری تھا کہ آج امت محمدیہ میں جتنے فتنے پھیلے ہیں، وہ غیر اصولی مطالعہ کتاب و سنت کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں۔ چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت ان ہی ضابطوں کی روشنی میں راہ ہدایت پر ہیں اور امت کے لئے آفتاب و ماہتاب ہیں۔

دین اسلام کے خلاف ہر فرقہ ان اصولوں سے ہٹ جانے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ ہم نے یہ قواعد اس لئے لکھ دیے ہیں کہ قارئین ہر فتنے کی جڑ کو سمجھ سکیں۔ ہم نے جس کتابوں کے جواب کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے، اس کے مصنف سرے سے اجماع امت کو ہی ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ احادیث دجال کی تحقیق میں پڑی سے اتر گئے ہیں۔

ان کے برخلاف ہم نے علی الترتیب تینوں دلائل کو سامنے رکھا ہے۔ قارئین محسوس کریں گے کہ ادلہ اربعہ سے ہی سارا دین ثابت ہو جاتا ہے۔

اگرچہ ہمارا موضوع دجال کی آمد ہے لیکن احادیث جن میں دجال کا ذکر ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر عام ہے۔ اس لئے ہم پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے متعلق قرآنی شواہد پیش کرتے ہیں جنہیں منکرین نے اپنی کتابوں میں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پیش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کیا ہے۔

## دجال سے پناہ مانگنے کی دعا

آنحضرت ﷺ کی دعاء جس میں آپ نے دجال سے پناہ مانگی:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نماز میں (تشہد کے بعد) یہ دعا مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ. (بخاری شریف)

اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی کے فتنوں اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ اے پروردگار!

میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

راوی کا بیان ہے کہ آپ کی یہ دعائیں کرکسی کہنے والے نے کہا کہ ”آپ کا قرض سے پناہ مانگنا بڑے تعجب کی بات ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب آدمی قرضدار ہوتا ہے تو باتیں بناتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

دجال آخر زمانہ میں قیامت کے قریب پیدا ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنے مکروہ فریب اور شعبہہ بازیوں سے گمراہ کرے گا۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے امت کو یہ دعا تلقین فرمائی جو عین نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز میں یا نماز کے بعد اس عقیدے کی پختگی کے لئے مسلمان سے یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں۔

## حضرت عیسیٰ اور دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟

مظاہر حق شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ دجال کو مسیح اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ملی ہوئی ہوگی یعنی وہ کانا ہوگا یا کہ وہ مسح ہوگا۔ اس لئے اس مناسبت سے اسے ”مسیح“ کہا جاتا ہے۔ مسح کا مطلب ہے ”تمام بھلائیوں نیکیوں اور خیر و برکت کی باتوں سے بالکل بعید، نا آشنا اور ایسا کہ جیسے اس پر کبھی ان چیزوں کا سایہ بھی نہ پڑا ہو“ اور ظاہر ہے اتنی بری خصلتوں کا حامل ”دجال“ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”مسیح“ کہنے کی وجہ

اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے۔ جس کی اصل ”مسیحا“ ہے اور مسیحا عبرانی زبان میں ”مبارک“ کو کہتے ہیں یا یہ کہ مسیح کے معنی ہیں ”بہت سیر کرنے والا“ چونکہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آسمان سے اُتارے جائیں گے اور دنیا سے گمراہی ضلالت اور لڑائیوں کی جڑ

اکھاڑنے اور پھر تمام عالم پر خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے حکمرانی کرنے پر ہمارے فرمائے جائیں گے اور اس سلسلہ میں آپ کو امور مملکت کی دیکھ بھال کرنے اور خدا کے دین کو عالم میں پھیلانے اور کانے دجال کو موت کے گھاٹ اُتارنے کیلئے تقریباً پوری ہی دنیا میں پھرنا پڑے گا۔ اس لئے اس مناسبت سے مسیح (سپر کرنے والا) آپ کا لقب قرار پایا ہے۔

بہر حال لفظ مسیح کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال ملعون دونوں پر ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ جب صرف ”مسیح“ لکھا اور بولا جاتا ہے تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی مراد لی جاتی ہے اور جب دجال ملعون مراد ہوتا ہے تو لفظ مسیح کو دجال کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں یعنی ”مسیح دجال“ لکھتے اور بولتے ہیں۔ بعض عوام سے سننے میں آیا ہے دجال مسیح ہوگا کیونکہ اوپر والی دعا میں اسے مسیح کہا گیا ہے یہ غلط ہے ”مسیح“ کہنے کی وجہ بتادی گئی ہے آگے حدیث میں آرہا ہے کہ وہ یہودی ہوگا۔

## زمانہ نبوت میں دجال کا عام تذکرہ

ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے دجال یاد آ گیا خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں تسلی دی۔ (النبایہ ص ۱۱۲)

اسی طرح حضرت حفصہؓ نے حضرت ابن عمرؓ کو بہت نصیحت کی کہ دجال سے بچے رہنا۔ (مسلم شریف)

اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا ذکر اور اس سے بچنے کی فکر عام تھی۔ اور اوپر متفق علیہ روایت گذری ہے اس میں آنحضرت ﷺ نے دعا میں چھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ (۱) عذاب قبر۔ (۲) فتنہ دجال۔ (۳) فتنہ زندگی۔ (۴) فتنہ موت۔ (۵) گناہ۔ (۶) قرض۔

یہ چھ چیزیں اپنی ہیبت و ہلاکت اور دینی و دنیاوی خسران و نقصان کے باعث بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان چیزوں سے اگر خداوند تعالیٰ نے نجات دی اور اپنا فضل و

کرم فرما دیا تو دینی و دنیاوی دونوں زندگیاں کامیابی و کامرانی اور رحمت و سعادت کی ہم آغوش ہوں گی۔ اور خدا نخواستہ کہیں کسی بد نصیب کو ان میں سے کسی ایک سے بھی پالا پڑ گیا، تو جانئے کہ اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت کی تمام سہولتیں اور آسانیاں اور وہاں کی رحمتیں اور سعادتیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی اور وہ عذاب خداوندی کا مستحق ہوگا۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے خود ان چیزوں سے پناہ مانگ کر اُمت کیلئے تعلیم کا دروازہ کھولا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ان سخت و ہیبت ناک چیزوں سے پناہ مانگتا رہے، تاکہ پروردگار اس کو ان سے محفوظ و مامون رکھے۔

عذاب قبر اور فتنہ دجال یہ تو بالکل ظاہر ہیں۔ (ان میں سے فتنہ دجال کی تشریح و توضیح آگے آرہی ہے)

## زندگی کا فتنہ

البتہ ”فتنہ زندگی“ یہ ہے کہ صبر و رضا کے فقدان کی وجہ سے زندگی کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو اور نفس ان چیزوں میں مشغول و مستغرق ہو جائے جو راہ ہدایت اور راہ حق سے ہٹا دیتی ہوں اور زندگی کو گمراہیوں و ضلالتوں کی کھائی میں پھینک دیتی ہوں۔ ”فتنہ موت“ کا مطلب یہ ہے کہ ”شیطان لعین“ حالت نزع میں اپنے مکر و فریب کا جال پھینکنے اور مرنے والے کے دل پر وساوس و شبہات کے بیج بو کر اس کے آخری لمحوں کو جس پر دائمی نجات و عذاب کا دار و مدار ہے برائی و گمراہی کی بھینٹ چڑھا دے، تاکہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا نعوذ باللہ ایمان و یقین سے نہیں بلکہ کفر و تشکیک کے ساتھ فوت ہو جائے۔ (العیاذ باللہ) اس طرح منکر نکیر کے سوالات کی سختی، عذاب قبر کی شدت اور عذاب عقبیٰ میں گرفتاری بھی موت کے فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہر مسلمان کو محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔

لفظ ”ماثم“ یا تو مصدر ہے یعنی گناہ کا باعث ہے۔ بہر حال اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں سے خدا کی پناہ، جس کے نتیجے میں بندہ عذاب آخرت اور خدا کی

ناراضگی مول لیتا ہے یا ان چیزوں سے خدا کی پناہ، جو گناہ صادر ہو جانے کا ذریعہ ہیں یا جن کو اختیار کر کے بندہ راہِ راست سے ہٹ جاتا ہے اور ضلالت و گمراہی کی راہ پر پڑ جاتا ہے۔

(مظاہر حق ج ۱ ص ۶۳۶)

اس ارشادِ عالی میں آپ ﷺ نے جو دعائیں فرمائی ہیں، وہ آج ہی ہر مسلمان کی زبان پر ہونی چاہیے، تاکہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجالوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مل جائے۔ دجال (بہت بڑا دھوکے باز) اپنے عمومی معنی میں یہ لفظ ان مصنفین پر بھی صادق ہے جو امت کے اجماعی عقیدوں کو شکوک پیدا کر کے انہیں راہِ حق سے ہٹا کر موت کے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اس دعا میں ان عناصر سے پناہ مانگنے کی نیت بھی کر لینی چاہئے، جو فریب دے کر امت کو ”دجال“ سے بے خوف کر رہے ہیں۔

آنحضرت نے فرمایا سورہ کہف جو شخص جمعہ کے دن پڑھتا ہے اسے بھی ہر دجالی فتنہ سے بچایا جاتا ہے۔

## قرآن کریم اور دجال کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی چیزیں بیان کی ہیں جن کی حضور ﷺ نے تصدیق فرمادی ہے۔ ارشاد فرمایا:

۱. لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمِنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ.

(سورہ الانعام ۱۵۸)

اس دن اس شخص کو ایمان نفع نہ دے گا، جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا نہ کمائی ہو نیکی۔

اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا:

۲. طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. وَالدَّجَالُ وَدَائِبَةُ الْاَرْضِ

(صحیح مسلم حدیث ۳۹۸)

تین چیزیں ظاہر ہوں گی تو ایمان معتبر نہ ہوگا۔

(۱) سورج مغرب سے نکلنا۔

(۲) دجال کا خروج۔

(۳) دابۃ الارض۔ (بولنے والے جانوروں کا نکلنا)

۳۔ پہلی اور تیسری علامت کا بیان ہو چکا ہے، دوسری علامت قیامت دجال پر تفصیل آ رہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا:

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْأَلْيُوْمنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

اور اہل کتاب میں ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے

پہلے مسلمان ہو جائے گا۔ (النساء، ۱۵۹)

ابن کثیر میں ہے، یہود کا ایمان قتل دجال کے بعد ہوگا۔

(ابن کثیر ج ۱ ص ۱۵۴)

اگرچہ اس آیت میں متعدد اقوال راجح ہی ہے۔۔۔۔

اور ابن کثیر نے اس کی تصدیق میں متعدد دلائل دئے ہیں۔

(مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے معارف القرآن ج ۲ ص ۲۵۸)

۳۔ تفسیر معاصر الم التقریل ج ۲ ص ۱۰۱ پر علامہ بغوی نے اس آیت کے ذیل

میں دجال کے مذکور فی القرآن ہونے پر روشنی ڈالی ہے۔

الغرض بہت سے مفسرین نے اس آیت کے نزدیک میں دجال کی آمد کی خبر

دی جا رہی ہے۔

اس کے بعد وہ آیات لکھی جا رہی ہیں جن میں جعاً دجال کی آمد کا ذکر

ہے۔ اور ان احادیث کا ذکر ہوگا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور قتل دجال

کا ذکر ہے۔

۵. وَقَوْلِهِمْ اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. وَاِنَّ الَّذِيْنَ

اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِنْهُ. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا

اَتْبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ

عَزِيزًا حَكِيْمًا ۝ وَاِنَّ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ  
مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝ (انعام)

اور ان کے قول کے سبب کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اسے سولی پر چڑھایا بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے بلاشبہ ان کے بارے میں شک میں ہیں اور ان کے پاس اس کا کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ مگر صرف گمان کی پیروی ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اللہ بڑا زبردست اور بڑا ہی حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو ان کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے گا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت کے تمام لوگ ان کو اللہ کا رسول مان لیں گے اور قیامت کے دن آپ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے)۔

آیات بالا میں درج ذیل حقائق واضح ہیں:

(۱) عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

(۲) انہیں نہ کسی نے خود قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھا کر ختم کیا گیا۔

(۳) وہ لوگ جو ان کے متعلق قیاس آرائیاں کرتے ہیں، شک میں مبتلا ہیں۔

اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر و غالب ہے، جس کی قدرتیں انسانوں کی فہم و فراست اور عقل و فکر سے بالاتر ہیں اور جس کی حکمت کی تہ تک پہنچنے میں ہر فرد بشر قاصر و عاجز ہے۔ اس نے اپنی کامل حکمت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ ہی اٹھالیا اور مخالفین کیلئے شبہ ڈال دیا گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہم شکل شخص کو قتل کر دیا اور انہیں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ پروردگار نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پر باقی ہیں۔ قیامت کے قریب اتریں گے۔

(ابن کثیر)



## ذوالجال کا ذکر قرآن کریم میں حرمتاً کیوں نہیں ہے؟

ان کا جواب دیتے ہوئے ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اس سے شدید نفرت کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام نہیں لیا۔ ہاں! اپنے نبیوں کے ذریعے نبی آدمؑ کو مطلع فرمایا ہے فرعون کا ذکر اس لئے ہے کہ اس کا واقعہ گزر چکا ہے اب کوئی دعویٰ الوہیت کرے، تو اس سے نفرت کرنا ہوگی۔ یہی جواب حافظ ابن حجرؒ نے اور یہی امام بلقینیؒ نے دیا ہے۔

اور مثال یا جوج ماجوج کی دی ہے۔ (تفہیم النہای فی التفسیر والملاحم) ص ۱۳۵)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر غلط استدلال

قارئین کرام! پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ قرآن کریم احادیث متواترہ اور اجماع اُمت کے قطعی اور یقینی دلائل اور براہین سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رفع الی السماء ان کی حیات اور نزول الی الارض یعنی زندہ آسمانوں پر جانا اور اب قیامت میں زمین پر واپس آنا ثابت ہے۔ اب اس باب میں آپ بعض کم فہم کج بحث ضدی اور نہایت ہی سطحی ذہن رکھنے والے ملاحدہ اور زنادقہ کا استدلال اور اس کا رد بھی ملاحظہ کر لیں۔ آپ پڑھیں گے کہ کس کمال استدلال سے قرآنی مفہوم کو ہمارے استاذ مکرم مدظلہ نے اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ دجال (دھوکا باز لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہے) کہ وہ کتاب کتاب و سنت کا ترجمہ کرتے وقت دیگر آیات و احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں۔

کیونکہ تقابل سے ہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ بے دین جب کہتے ہیں کہ آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ وہ فوت ہو گئے اور اسی زمین میں دفن ہیں اور نہ ہی قیامت سے پہلے دیگر مردوں کی طرح اٹھ سکیں گے۔ اس ضمن میں وہ خردوج دجال اس کی فتنہ خیزیوں اور ان سے بچنے والی دعاؤں، قتل دجال اور خلافت ارضی؟ عیسیٰ کے بعد نفاذ اسلام کا انکار بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی تحریروں سے مرزائیت کو تقویت ملتی ہے اور وہ خلاف اسلام عقائد کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔

الغرض نزول عیسیٰ کا عقیدہ متزلزل ہو جائے تو قرب قیامت کی بہت سی علامات سے ایمان ہٹ جاتا ہے جو اہل کفر کا اصل مقصود ہے کہ مسلمان غفلت والی زندگی میں پڑ جائے۔

## قرآن کریم کی رہنمائی

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَذِهِ وَارْتَقِهَا وَتَرَاهُ مُجْرِبَةً فِي السَّمَاءِ بِإِذْنِ رَبِّكَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاءَ مِنْ دُونِ السَّمَاءِ كَانَتْ عَجَمًا لَفَتَرْنَ فِيهَا كُفْرًا وَتَرَاهُ فِي سَحَابٍ مُّتَسَاوٍتٍ وَتَرَاهُ فِي سَحَابٍ مُّتَسَاوٍتٍ وَتَرَاهُ فِي سَحَابٍ مُّتَسَاوٍتٍ وَتَرَاهُ فِي سَحَابٍ مُّتَسَاوٍتٍ

(آیہ ۳ آل عمران ۶)

اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ (علیہ السلام) میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف (آسمان پر) اٹھانے والا ہوں۔

مفسر قرآن امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خاں صفدر صاحب مدظلہ لکھتے ہیں: ملحد یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس نص قطعی میں مُتَوَفِّيكَ کا جملہ ہے اور اس کا معنی وفات ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے وفات دیتا ہوں اور تجھے (یعنی تیری روح کو) اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور یہ ملحدین کہتے ہیں کہ اس کا معنی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے۔ چنانچہ بخاری جلد ۲ ص ۶۶۵ میں ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں مُتَوَفِّيكَ اِی مُمِيتِكَ تُو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات قطعی طور پر ثابت ہے۔

## صرنی و لغوی تحقیق

الجواب: ان ملحدین کا یہ استدلال قطعاً باطل اور یقیناً مردود ہے۔ اولاً اس لئے کہ متوفیک کا مجرد مادہ وفات نہیں بلکہ وفی ہے اس کے معنی عربی لغت میں پورا پورا دینے اور لینے کے ہیں۔ وَفَاءٌ اِنْفَاءٌ اور اِسْتِیْفَاءٌ اس معنی کیلئے بولے جاتے ہیں اور الْكَرِيمُ اِذَا وَعَدَ وَفَى مشہور محاورہ ہے تمام کتب عربی زبان کی اس پر شاہد ہیں اور چونکہ موت کے وقت بھی انسان اپنی اجل اور مُقَدَّر عمر پوری کر لیتا ہے اور اس کی روح واپس لے لی جاتی ہے، اس مناسبت سے یہ لفظ بطور مجاز کے موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے نیند کیلئے یہ لفظ مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ  
(آیہ پ ۷، الانعام ۷)

اور وہ ہی ہے کہ (سلا کر) قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں اور

جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں۔

اس آیت کریمہ میں توفیٰ کا لفظ مجازاً نیند پر اطلاق ہوا ہے اور مشہور ہے۔  
 الْمَجَازُ قُنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ کہ مجاز حقیقت کا پل ہے جب راستہ بالکل ہموار اور  
 سڑک بالکل سیدھی ہو تو اس پر پل بنانا اور پھر اس کو عبور کرنا صرف احمقوں اور  
 دیوانوں کا کام ہے۔ عقلمندوں کا نہیں اور جب یہ مزید کے ابواب میں استعمال ہوتا  
 ہے تو مجرد کے معنی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ نظر انداز نہیں کیا جاتا مثلاً جب یہ باب افعال  
 میں آتا ہے۔ او فانی فلان در اہمی تو معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے در اہم  
 مجھے پورے پورے دیے اور جب باب تفعیل میں آتا ہے وفی یوفی توفیہ تو  
 اس کا معنی پورا پورا دینے کا ہوتا ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس باب  
 (تفعیل) میں یہ استعمال ہوا ہے۔  
 (توضیح الدمام)

## دیگر آیات میں توفیٰ کے معنی

لغوی اور صرفی تحقیق کے بعد استاذ محترم نے انہیں الفاظ قرآنی کے دیگر آیات  
 میں استعمال کو اپنا متدل بنایا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کو ثابت  
 کرنے کے لئے امت کے متفقہ اصول پر چلتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۱) جس رکوع میں مُتَوَفِّيكَ کا جملہ موجود ہے، اسی رکوع میں یہ الفاظ بھی  
 موجود ہیں فَيُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ (آیہ ۳ آل عمران ۶) یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا  
 بدلہ اور حق دے گا اور دوسرے مقامات میں ہے۔

(۲) وَوَفَيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمَلَتْ (آیہ ۱۳۳ الزمر ۸)

اور ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

(۳) فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ (پ ۱۸، النور ۵)

پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا پورا حساب پہنچا دیا۔

(۴) وَلَيُؤْتِيهِمْ اَعْمَالَهُمْ (پ ۲۶، الاحقاف)

اور تاکہ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے۔

(۵) وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (پ ۲۳ آل عمران ۱۹)

اور پختہ بات ہے کہ تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔

(۶) فَيُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ (آیہ پ ۶، النساء ۲۳)

پس ان کو ان کا پورا پورا بدلہ اور ثواب دے گا۔  
قرآن کریم کے ان تمام مقامات پر یہ لفظ باب تفعیل میں استعمال ہوا ہے اور اس میں ”پورا پورا دینے کا مفہوم“ اور معنی شامل ہے اور یہ لفظ جب باب تفعیل میں آئے تو اس کا مصدر توفی آتا ہے اور اس کا معنی پورا پورا نبض کرنا اور پورا پورا وصول کرنا اور پورا پورا لینا ہوتا ہے۔

اس کے بعد استاذ مکرم نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلف صالحین، مفسرین کے اقوال اہل سنت کی تائید میں لائے ہیں، فرماتے ہیں، اسی حقیقی معنی کو ملحوظ رکھ کر مفسرین کرامؒ یہ معنی کرتے ہیں۔

## اقوال مفسرین رحمہم اللہ

(۱) امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی (المتوفی ۶۰۶ھ) فرماتے ہیں کہ

ان التوفی هو القبض يقال وفانی فلان ذراهمی و

او فانی و توفیتها منه الخ (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۷۲)

توفی کا معنی وصول کرنا ہے۔ محاورہ ہے کہ فلاں نے مجھے میرے دراہم پورے

پورے دے دئے۔

ہم نے استاذ مکرم مدظلہ کے ایک حوالہء تفسیر پر اکتفاء کیا ہے۔ حضرت نے امام رازی، علامہ آلوسی، ابو حیان اندلسی، امام فراء، امام قرطبی، حضرت قتادہ، امام جریر الطبری اور دیگر مفسرین کے اقوال اپنی تائید میں لکھتے ہیں شائقین ان کی کتاب ”توضیح الرام“ کا مطالعہ کریں۔

قارئین نے ملاحظہ کر لیا کہ قرآن کریم حدیث شریف، لغت عربی، اجماع

امت اور امت مسلمہ کا ہر علمی طبقہ وہ حضرات محدثین ہوں یا فقہاء حضرات متکلمین ہوں یا صوفیاء وغیرہم سب کے سب اس معنی پر متفق ہیں۔

جملہ اہل اسلام اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدہ کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رفع الی السماء ان کی حیات اور پھر نزول الی الارض بھی قطعی اور محکم دلائل سے ثابت ہے جو کسی تاویل کا محتاج نہیں۔ لہذا جو طبقہ اور گروہ ایسے بنیادی عقیدوں کا انکار یا تاویل کر کے کافروں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے ایسا کرے اسے کون روک سکتا ہے؟

اور اس مسئلے پر بے شمار کتابیں آچکی ہیں لیکن ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ ان سب دلائل کے مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایسے نام نہاد تحقیقین اور ان پر یقین رکھنے والوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور وہ جب ان کی آمد کے منکر ہیں۔

جبکہ قرآن و سنت اجماع امت سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کا رفع الی السماء ان کی حیات اور قیامت سے پہلے ان کا زمین پر نازل ہونا نصوص قطعیہ و قرآنی آیات سے ثابت ہے جس کا انکار کافر ملحد اور زندیق کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ باطل پرستوں پر براہین قطعہ اور ادلہ ساطعہ کا کچھ اثر نہیں ہوتا وہ اپنی انا اور ضد پر قائم رہتے ہیں بھلا شیطان کی ہدایت کس کے بس میں ہے؟

بدلنا ہے تو مے بدلو طریقے مے کشی بدلو  
وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا؟

حدیث رسول ﷺ میں قتل دجال کا ذکر

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رفع الی السماء، ان کی حیات اور نزول الی الارض اور قتل دجال کے سلسلہ میں اس سے پہلے کتب تفسیر وغیرہ سے مضبوط اور صریح حوالے قارئین کرام پڑھ چکے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اور اس کی تفسیر بھی

ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب اس باب میں چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے اور آج کے حضرات زیر نظر کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رُوح الی السماء حیات اور نزول الی الارض کی احادیث متواتر ہیں سب کا استیعاب واحصاء مطلوب نہیں صرف بعض احادیث کا باحوالہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ جن سے معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر کے اس کے برپا کئے ہوئے فتنوں سے امت کو نجات دیں گے۔

### پہلی حدیث:

حضرت ابو ہریرہؓ (عبدالرحمن بن صخر التوفی ۵۸ھ) روایت کرتے ہیں کہ  
 قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي  
 نفسي بيده ليؤشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما  
 عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب  
 ويفيض المال حتى لا يقبله احد وحتى تكون  
 السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول  
 ابو هريرة واقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا  
 ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا  
 (بخاری جلد ۱ ص ۳۹۰ واللفظ له وابن ماجہ ص ۳۰۸ و مسند احمد جلد ۲ ص ۳۰۶ و مسلم جلد ۱ ص ۸۷)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔  
 البتہ ضرور بضرورت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام  
 نازل ہوں گے، حاکم اور عادل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں  
 گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور لڑائی کو موقوف کریں گے اور مال  
 بکثرت تقسیم کریں گے۔ یہاں تک کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہ  
 رہے گا اور اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ یہ پڑھو (جس کا ترجمہ ہے) اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا ضرور بضرور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان پر گواہ ہوں گے۔

آنحضرت ﷺ اگر بغیر قسم اٹھائے بھی فرمادیتے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا مگر اس حدیث میں آپ ﷺ نے قادر مطلق ذات کی قسم اٹھا کر اور پھر لیو شکن کے جملہ میں لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ سے اس کو نہایت ہی مؤکد کر کے فرمایا ہے کہ لامحالہ اور ضرورت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل ہوں گے اتنی اور ایسی تاکیدات کے حلفی بیان میں کون عقلمند نبی معصوم ﷺ کے ارشاد میں شک کر سکتا ہے؟ صرف وہی کرے گا جو ایمان اور عقل و بصیرت سے کلائیہ محروم ہوگا۔

عمل ان سے ہوا رخصت عقیدوں میں خلل آیا  
کوئی پوچھے کہ ان کے ہاتھ کیا نعم البدل آیا  
حافظ ابن حجرؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

(ملاحظہ ہو فتح الباری جلد ۶ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲)

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل ہو کر حقیقتاً صلیب توڑیں گے اور نصاریٰ پر یہ واضح کریں گے کہ تم صلیب کی تعظیم کرتے رہے اور میں اس کو توڑ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعظیم کے قابل نہیں بلکہ نیست و نابود کرنے کے لائق ہے اور اسی طرح نازل ہونے کے بعد خنزیر کو قتل کر کے عیسائیوں پر یہ ظاہر کریں گے کہ تم اس کو حلال سمجھتے رہے اور اس سے محبت کرتے رہے اور میں اس کے وجود کو ہی ختم کر رہا ہوں اور جب کافر ہی نہ رہے تو قتال اور جہاد کس سے کیا جائے گا؟ اور جب اہل کتاب اور دیگر ذمی کفار ہی نہ رہے تو جزیہ کس سے وصول کیا جائے گا؟ اس لئے ان کی آمد کے بعد جو لڑائی اور جزیہ موقوف ہو جائے گا اور ظلم و جبر مٹ



جائے گا اور عدل و انصاف کے نفاذ اور زمین کی برکات کی وجہ سے کوئی غریب اور محتاج نظر ہی نہ آئے گا تاکہ اس کو مال دیا جائے اور وہ مال قبول کرے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول نری برکت ہوگی گویا وہ یوں گویا ہوں گے۔  
سے جو اس کو اسے تحیر، جو اس کو برتے اسے تردد  
ہماری نیکی اور ان کو برکت، عمل ہمارا، نجات ان کی

(توضیح الرام)

ہم نے ایک حدیث کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے اس کے علاوہ حضرت شیخ مدظلہ نے مسلم ج ۱ ص ۸۷۔ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۵، تیسری حدیث مسلم ج ۲ ص ۴۰۱، ترمذی ج ۲ ص ۴۷۔ ابن ماجہ ص ۳۰ و مستدرک حاکم ج ۲ ص ۴۹۳ پر ہے اور چوتھی حدیث مسلم ج ۲ ص ۴۰۳ و مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۶ و مستدرک ج ۳ ص ۵۴۳ و کنز العمال ج ۷ ص ۲۵۸ پر ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزر د کپڑوں میں ملبوس اور فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق میں سفید مینار پر حضرت عروہ بن مسعود کی شکل میں اتریں گے۔ دجال جو چالیس دن رہ کر گرا ہی پھیلا چکا ہوگا۔ اسے طلب کر کے قتل کریں گے۔

## نزول عیسیٰ علیہ السلام اور اجماع امت

منکرین حدیث نے قرب قیامت کے متعلق مسلمانوں کے مرکزی عقیدے کو بے بنیاد قرار دے کر بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ امت مسلمہ میں اول سے آخر تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اہل السنۃ والجماعت نے نزول عیسیٰ کے عقیدہ کو کبھی بھی عقائد سے خارج کیا ہو۔ ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خنفی بھی کہتے ہیں اور علم و عمل کی پہچان بننے کے لئے علماء راہنہین علم سے بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے باز نہیں آتے، ایک صاحب تو لکھتے ہیں کہ اجماع امت کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔

ان کی زہر افشانی کے مسموم اثرات سے امت کو بچانے کیلئے پہلے ہم نے اجماع امت کا قابل دلیل ہونا لکھا ہے اور اب ہم قرآن و حدیث کے بعد اجماع

امت کو سامنے رکھ کر اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں۔

مولانا محمد سرفراز صفدر لکھتے ہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول من السماء کا عقیدہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات ائمہ مجتہدین حضرات فقہاء اسلام حضرات محدثین حضرات مفسرین کرام اور حضرات صوفیاء عظام وغیرہم سبھی ہی بزرگان دین اس عقیدہ کو عقائد اور ایمانیات میں شامل کرتے ہیں اور صریح اور واضح الفاظ میں اس کو حق اور ایمان کہتے ہیں چند حوالے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت امام ابو حنیفہ (الامام الاعظم نعمان بن ثابتؒ) (الموتی ۱۵۰ھ) فرماتے ہیں:

ونزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام من السماء

حق کانن. (الفقہ الاکبر شرح علی القاری ص ۳۵ طبع کانپور)

کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا حق اور یقیناً ہونے والی چیز ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اپنی مختصر کتاب ”الفقہ الاکبر“ میں جس میں انہوں نے مختصر طور پر اصولی اور بنیادی عقائد اور فقہی اصول کا ذکر کیا ہے یہ بھی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا حق اور ضروری ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ الفقہ الاکبر حضرت امام ابو حنیفہؒ ہی کی تالیف و تصنیف ہے (ملاحظہ ہو الفہرست لابن ندیم ص ۲۹۸ اور مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش کبری زادہ جلد ۲ ص ۲۹) معتزلہ وغیرہم نے الفقہ الاکبر کے امام ابو حنیفہؒ کی تالیف ہونے کا انکار کیا ہے مگر ان کا قول تاریخی طور پر مردود ہے۔ (دیکھئے مفتاح السعادة جلد ۲ ص ۲۹)

(۲) امام ابو جعفر الطحاویؒ (احمد بن محمد بن سلامہ الازدی التوفیقی ۳۲۱ھ)

تحریر فرماتے ہیں کہ:

ونؤمن بخروج الدجال ونزول عیسیٰ بن مریم

## عليهما السلام من السماء الخ

(عقيدة الطحاوية ص ۸ ومع الشرح ص ۴۲۶)

ہم دجال کے خروج اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔

چونکہ قرآن کریم کے قطعی ادلہ احادیث موثرہ اور اجماع امت سے دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کا آسمان سے نزول ثابت ہے۔ اس لئے امام اہل السنۃ والجماعت اور فقہ میں وکیل احناف امام طحاویؒ نومس کے الفاظ سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا تسلیم کرنا عقیدہ اور ایمان میں داخل ہے۔

(۳) مشہور اور نامور محدث قاضی عیاضؒ (ابو الفضل عیاض بن موسیٰ التونی ۵۴۳ھ)

فرماتے ہیں کہ

نزول عیسیٰ علیہ السلام وقتلہ الدجال حق و صحیح عند  
اہل السنة للاحادیث الصحیحة فی ذلک و لیس فی العقل

والشرع ما یبطلہ فوجب اثباتہ. ۵۱

(بحوالہ نووی شرح مسلم جلد ۲ ص ۴۰۳)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نازل ہونا اور ان کا دجال کو قتل کرنا اہل السنۃ والجماعت کے نزدیک اس سلسلہ میں وارد احادیث صحیحہ کی بنا پر حق اور صحیح ہے اور عقل و شرع میں اس کے باطل کرنے کیلئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کا اثبات واجب اور ضروری ہے۔ (ہم مودودی صاحب اور زہر میرٹھی صاحب کے علم کے لئے وضاحت کر رہے ہیں کہ فقہاء اسلام جب بھی اہل السنۃ کا لفظ لکھتے ہیں تو اس سے مراد ائمہ اربعہ اور ان کے تبعین ہوتے ہیں)

علامہ موصوفؒ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول کو اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ بتاتے اور حق کہتے ہیں۔

(۴) امام اہل السنۃ والجماعت شیخ ابو الحسن الاشعریؒ (علی بن اسماعیل اسحاق بن

سلام الاشعری التونی (۳۳۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ

واجمعت الامة على ان الله عز وجل رفع عيسى  
عليه السلام الى السماء

(كتاب الابانه عن اصول الديانة ص ۳۶)

وہ کتابیں جو نزول عیسیٰ و قتل دجال پر لکھی گئیں

ان کے علاوہ بے شمار محققین اہل سنت نے اجماع امت اور تواتر کے دلائل سے کتابیں لکھی ہیں۔ جو نام نہاد مصنفین کے ہاتھوں میں ضرور آئی ہوں گی لیکن جب ارادہ ہی کفر کی وکالت کا ہو تو کوئی کیا کرے؟ ان میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) عقیدة اهل الاسلام في نزول عيسى عليه

السلام (لشی العلامة المحدث عبد الله الصديق انعماری)

(۲) ازالة الشبهات العظام في الرد على منكر نزول

عيسى عليه السلام (لشیخ محمد علی اعظم)

(۳) اعتقاد اهل الايمان بالقرآن بنزول المسيح

عليه السلام في نزول آخر الزمان (لشیخ العلامة محمد

العربی التبانى المغربی)

(۴) التوضیح فی ما تواتر فی المنتظر والدجال

والمسیح (للقاضی الشوکانی)

(۵) الجواب المقنع المحرر فی الرد علی من طغی

وتجبر بدعوی انه عیسیٰ او المهدی المنتظر (للعلامة

الشیخ حیب الله الشقیطی)

(۶) نظرة غابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى

عليه السلام قبل الآخرة (للعلامة محمد زاهد الكوثری)

(۷) الخطاب الملیح فی تحقیق المهدی والمسیح

(لحکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی)

(۸) عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام

(للعلامة المحدث السيد محمد انور شاه کشمیری)

(۹) تحیة الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام

(للعلامة المحدث السيد محمد انور شاه کشمیری)

(۱۰) توضیح المرام (مولانا محمد سرفراز صفدر)

یہ دونوں آخری کتابیں خالص علمی اور دقیق کتابیں ہیں۔ جن میں کتابوں کے حوالوں کا انبار لگا دیا گیا ہے اور دونوں عربی میں ہیں۔ ان سے استفادہ صرف جید اور کہنہ مشق مدرس قسم کے علماء ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرے حضرات کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حضرت کے رفع درجات کی دعا ہی کریں کہ انہوں نے بہت بڑا علمی خزانہ جمع کر دیا ہے۔ ذرا بھی عقل و شعور رکھنے والا گمراہ نہ ہو اور قیامت تک بھی کوئی جھوٹا دعویٰ مسیحیت کرے یا مہدویت یا دجال بھی بن کر آجائے بہر حال پہچانا جائے گا۔

## قتل دجال سے پہلے حضرت عیسیٰ کے اترنے کی جگہ

حضرت حذیفہؓ کو آنحضرتؐ نے بہت سے فتنوں کی خبر دی تھی۔ ان سے مروی احادیث متواترہ ہیں اور ان میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول اور مکان نزول کی واضح دلالت ہے کہ شام بلکہ دمشق میں مشرقی مینار پر صبح کی نماز کے وقت ان کی تشریف آوری ہوگی اور یہ سفید مینار تراشے ہوئے پتھروں سے اس دور میں ۷۴۱ھ میں جامع اموی میں بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ مینار تھا جو آگ لگنے کی وجہ سے مسمار کر دیا گیا تھا اور یہ آگ نصاریٰ (جن پر تاقیامت اللہ تعالیٰ کی لگاتار لعنتیں برستی رہیں گی) بدکرداری اور خبث باطن کی طرف منسوب ہے (کہ انہوں نے اسلام کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنے کیلئے آگ لگائی)

میرے استاذ مولانا محمد سرفراز مدظلہ فرماتے ہیں کہ بجز اللہ تعالیٰ راقم الحروف نے ۵ محرم ۱۳۹۳ھ میں حج سے واپسی کے سفر میں دمشق کے سوق حمید یہ میں جامع اموی

کے مشرقی طرف اپنی آنکھوں سے یہ سفید مینار دیکھا ہے۔

اور حافظ ابن کثیرؒ بھی دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ

وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم انه اخبر بنزول عیسیٰ بن مریم علیہما

السلام قبل یوم القیمة اماماً عادلاً و حکماً مقسطاً

(تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۳۲، ۱۳۳)

بلاشبہ آنحضرت ﷺ سے متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے امام عادل اور منصف حاکم ہو کر نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ معلوم ہوا کہ قتل دجال کے بعد وہ مکمل حکومت اسلامی کا نفاذ کریں گے اور اس سے پہلے قرآنی آیت کی روشنی میں گذر چکا ہے کہ یہود جیسی عبا ر قوم بھی ان پر ایمان لے آئے گی۔

ایک اور حدیث کا مفہوم ہے:

حضرت نواس بن سمان الکلابی (المتوفی ھ) کی طویل حدیث (مسلم جلد ۲ ص ۴۰۱

وترندی جلد ۲ ص ۴۷۷ ذریعہ اذہب بدل از بعث و ابن ماجہ ص ۴۰۶، مستدرک جلد ۲ ص ۴۹۳، وقال الحاکم والذہبی علی

شرطہما)

اسی حالت میں (کہ ایک نوجوان دجال سے برس پیکار ہوگا) یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کو (آسمان سے) بھیجے گا اور وہ دوزر درنگ کے کپڑوں میں ملبوس اور دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ سفید مینار آج بھی دمشق میں مشرقی سمت میں موجود ہے۔ (شرح مسلم جلد ۲ ص ۴۰۱)

یہاں تک دلائل سے معلوم ہوا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ کس طرح کہاں یہ واقعہ ہوگا سوالوں کا جواب ہو چکا اب سب سے پہلے فریضہ نماز ادا فرمائیں گے، تو اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام نماز کے امام ہوں گے آگے

اس کی وضاحت ہے۔

## نزول عیسیٰ کے وقت امام مہدی کی امامت

حضرت ابو امامۃ الباہلی (صدی بن عجلان المہدی ۸۶ھ) کی طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دجال کے خروج اور قرب قیامت کی علامت بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ

فبینما امامہم قد تقدم یصلی بہم الصبح اذ نزل  
 علیہم عیسیٰ بن مریم الصبح فرجع ذالک الامام  
 ینکص یمشی القہقروی ليقدم عیسیٰ علیہ السلام  
 یصلی فیضع عیسیٰ علیہ السلام یدہ بین کتفیه ثم  
 یقول له تقدم فصل فانها لک اقیمت فیصلی معہم

امامہم الحدیث .

(ابن ماجہ ص ۳۰۸ و اسنادہ قوی التصریح بما تواتر فی نزول اسخ علیہ السلام ص ۱۵۶ اور حافظ ابن

حجر نے اس روایت کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے فتح الباری جلد ۶ ص ۳۹۳)

لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ ان کا امام صبح کی نماز کیلئے آگے کھڑا ہوگا اور صبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل ہوں گے وہ امام اُلٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع کرے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نماز پڑھانے کیلئے آگے کرے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس امام کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور پھر فرمائیں گے تو ہی آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا، کیونکہ یہ نماز تیرے لئے قائم کی گئی ہے۔ تو وہ امام ان کو نماز پڑھائیں گے۔

حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ

تواترت الاخبار بان المہدی من هذه الأمة وان عیسیٰ علیہ

(فتح الباری جلد ۶ ص ۳۹۳)

السلام یصلی خلفہ الخ .

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اسی امت میں سے

ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔

## وہ نماز فجر کے وقت اتریں گے

حضرت عثمان بن ابی العاص (التوفی ۵۱ھ) سے مرفوع روایت ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

وینزل عیسیٰ بن مریم علیہما السلام عند صلوة  
الفجر فيقول اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه  
الامة امراء بعضهم على بعض فيقدم اميرهم فيصلى  
الحديث.

(مسند احمد جلد ۲ ص ۲۱۶ متدرک جلد ۳ ص ۳۷۸ صحیح الزوائد جلد ۷ ص ۳۳۲)

اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے وقت نازل ہوں گے۔ مسلمانوں کے امیر (جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے) ان سے فرمائیں گے اے روح اللہ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ وہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس امت (محمدیہ علیٰ صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام) کے لوگ بعض بعض پر امراء ہیں تو ان کے امیر آگے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔

یہ حدیث بھی امام حاکم اور علامہ بیہقی وغیرہ محدثین کی تصریح کے مطابق صحیح ہے اور اس سے بھی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کا واضح الفاظ میں نزول اور وقت نزول مذکور ہے کہ فجر کا وقت ہوگا۔



## حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کا حال کیا ہوگا۔۔؟

ہم یہ ثابت کر آئے ہیں امام مہدی علیہ السلام کفار سے برسرا پیکار ہوں گے اور مسلمان ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے دجال آچکا ہوگا۔

حضرت سمرۃ بن جندب (التوفی ۵۹ھ) کی طویل اور مرفوع حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دجال لعین کے خروج کے وقت خراب حالات اور مسلمانوں کی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

فیتزلزلون زلزالاً شديداً فيصبح فيهم عيسى بن  
مريم عليهما السلام فيهزمه الله تعالى وجنوده  
الحديث.

(مستدرک جلد ۲ ص ۳۳ قال الحاكم، والمصنف علی شرطهما وسند احمد جلد ۵ ص ۱۳)

اس وقت لوگوں کے اندر شدید قسم کے زلزلہ کی سی کیفیت ہوگی اور صبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نازل ہوں گے، سو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا۔

## خروج دجال کے وقت مسلمانوں کی خوراک

حضرت عائشہؓ کی مرفوع روایت میں ہے کہ دجال کے خروج کے وقت بہترین مال اور ذخیرہ وہ قوی جوان ہوگا جو اہل خانہ کو پانی مہیا کر کے پلائے۔

واما الطعام فليس قالوا فما طعام المؤمنین يومئذ قال

التسبیح والتکبیر والتهلیل الحدیث رواہ احمد

وابو یعلیٰ ورجاله رجال الصبیح. (مجمع الزوائد جلد ۷ ص ۳۳۵)

خوراک تو بہر حال نہیں ہوگی صحابہؓ نے کہا کہ اس وقت مومنوں کی خوراک کیا

ہوگی؟ فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ (یہی تسبیحات ان کی خوراک ہوگی) یہ تسبیحات مؤمنین کے ایمان کو بھی قائم رکھیں گیں اور ان کے ذریعے وہ اپنی جسمانی بھوک کو بھی منائیں گے لیکن دجال کے فریب میں نہیں آئیں گے آج بھی اہل ایمان ان تسبیحات کو پڑھتے ہیں اور منکرین ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ تسبیحات سے کیا ہوتا ہے؟ خود مودودی صاحب نے اپنی تحریروں میں خانقاہی نظام مسیح و تقدس کو نشانہ بنایا ہے۔

مسلمان مسلسل اپنے اہل علم امراء کی نگرانی میں دین اسلام کو پھیلانے اور کفر کو مٹانے پر ڈٹے رہیں گے۔ حتیٰ کہ ادھر حضرت عیسیٰؑ کا نزول ہوگا ادھر مسلمان انڈیا کے بڑے بڑے گرووں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خود شام میں حضرت کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور عہد وفا کریں گے۔

## مجاہدین کی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں

مولانا صفدر مدظلہ لکھتے ہیں:

ایک وقت آئے گا کہ مجاہدین اسلام کا لشکر وہ انڈیا کے حکمرانوں کو تھکڑیوں اور زنجیروں میں طوق ڈال کر اور جکڑ کر لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کے سارے گناہ معاف فرمادے گا، جس وقت وہ لشکر کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے گا تو اس وقت وہ لشکر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو ملک شام میں دیکھے گا اور حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی ایک حدیث یوں ہے کہ

قال رسول اللہ ﷺ لا تزال عصاة من امتی علی الحق ظاہرین علی الناس لا یبالون من خالفہم حتی ینزل عیسیٰ بن مریم.

(تاریخ ابن عساکر جلد ۱ ص ۲۲۵ و کنز العمال جلد ۷ ص ۲۶۸)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم اور لوگوں پر غالب رہے گا اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام نازل ہوں گے۔ یہ وہی گروہ ہوگا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول تک علم و عمل اور جہاد کے ذریعہ حق پر ڈٹا رہے گا اور یہی گروہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ساتھ دے گا اور اسی گروہ کے افراد بفضلہ تعالیٰ ہر ہر مقام پر کفار سے جہاد کریں گے اور اسی گروہ کے افراد انڈیا سے نکل لیں گے۔

## کیا جہاد کا آغاز ہو چکا ہے؟

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ

قال وعدنا رسول الله ﷺ غزوة الهند فان ادركتها  
انفق فيها نفسى ومالى وان قتلت كنت افضل  
الشهداء وان رجعت فانا ابو هريرة المحرر.

(نسائی جلد ۴ ص ۵۲)

آنحضرت ﷺ نے ہم سے انڈیا کے خلاف جہاد کرنے کا وعدہ کیا ہے اگر میں نے وہ موقع پایا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کروں گا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو (اس وقت کے) افضل شہداء میں سے ہوں گا اور اگر فاتح ہو کر لوٹا تو میں دوزخ کے عذاب سے رہا کیا ہوں اور ابو ہریرہؓ ہوں گا۔

بفضلہ تعالیٰ اس جہاد کا آغاز ہو چکا ہے اور بظاہر اس میں شدت اس وقت آئے گی جب انڈیا کی فوجیں مسلمانوں کے حملوں اور جھڑپوں سے تنگ آ کر سندھ کے علاقہ پر حملہ کریں گی تاکہ کراچی سے لاہور اور پشاور کا رابطہ کٹ جائے اور سندھ کے علاقہ میں انڈیا کی ایجنسیاں اور ایجنٹس وافر مقدار میں موجود ہیں۔

امام قرطبیؒ (شیخ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری الضریقی المتوفی ۶۷۱ھ) نے تذکرۃ میں حضرت حذیفہ بن الیمانؓ (المتوفی ۳۵ھ) صاحب سرالنہیؓ سے طویل بحث نقل

کی ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔

عن النبی ﷺ تعالیٰ علیہ وسلم انه قال بیداً  
الخراب فی اطراف الارض الی قوله و خراب السند  
بالهند و خراب الهند بالصین الحدیث

(تذکرۃ القرطبی ص ۹۷ و مختصر تذکرۃ لعبد الوہاب اشرفی ص ۵۸ طبع مصر)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ زمین کے اطراف میں خرابی اور بربادی نمودار ہوگی پھر آگے فرمایا سندھ ہندوستان کے ہاتھ سے برباد ہوگا اور ہندوستان کی خرابی اور بربادی چین کے ہاتھوں سے ہوگی۔

اور اسی جہاد ہند کے سلسلہ میں انشاء اللہ العزیز بالآخر انڈیا کے حکمران جرنیل اور کمانڈر شکست فاش کھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے۔ ادھر یہ کارروائی ہو رہی ہوگی اور ادھر شام کے علاقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہاں بغیر اسلام کے اور کوئی مذہب باقی نہ رہے گا اور کفار اور بے دینوں کی تمام شرارتیں اور تخریب کاریاں کافور ہو جائیں گی اور تمام مظالم ختم ہو جائیں گے۔

ظلمت شب ہی نہیں صبح کی تنویر بھی ہے  
زندگی خواب بھی ہے خواب کی تعبیر بھی ہے

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قتل دجال

اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ انہوں نے زرد رنگ کا جوڑا پہنا ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکا دیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح بوندیں ٹپکیں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے ان کو ان کے سانس کی

ہوا لگے گی تو وہ مر جائے گا اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک وہ اسے ”باب لد“ پر پالیں گے (لد شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے) تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا پھر وہ ان پر شفقت سے کریں گے اور ان کے درجات کے متعلق جو ان کیلئے جنت میں (رکھے) ہیں بات چیت کریں گے، وہ بھی اسی حالت میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجے گا کہ تو میرے ان (مسلمان) بندوں کو کوہ طور کی طرف پناہ کیلئے لے جا۔ (مسلم ص ۲۷۴)

## عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کے ساتھ سوال اور قتل کرنا

زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اُٹھے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے مسلمانوں کی جماعت! تم اپنے پروردگار کو واحد تسلیم کرو اور اس کی پاکیزگی بیان کرو تو وہ اچانک نصف گھنٹے میں ”باب لد“ پر ہوں گے جو شام میں ہے۔ وہ مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وفاداری کریں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام (دجال کو) دیکھ کر فرمائیں گے تو نماز قائم کر۔ تو دجال کہے گا ”اے اللہ کے نبی! نماز قائم ہو چکی ہے۔“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ”اے اللہ کے دشمن! تو تو خود گمان کرتا ہے کہ تو جہانوں کا پروردگار ہے تو کس کیلئے نماز پڑھتا ہے؟“ پس عیسیٰ علیہ السلام اس (دجال) کو تیشہ مار کر قتل کریں گے۔ اس کے ساتھیوں میں سے جو بھی ہو گا وہ یہی پکارے گا۔

”اے مومن! یہ دجال کا ساتھی ہے۔ دجال کو ماننے والا ہے تو اسے قتل کر دے۔“

حتیٰ کہ آپ فرمائیں گے اب تم خوب فائدہ اٹھاؤ۔ چالیس سال تک نہ تم میں سے کوئی موت سے دوچار ہوگا اور نہ ہی کوئی بیمار ہوگا۔ (کتاب النہایہ ص ۱۳۳ ج ۱)

## دجال صرف چالیس روز رہ سکے گا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ (التوتوی ۶۳ھ) روایت کرتے ہیں کہ:

قال رسول الله ﷺ يخرج الدجال في امتي فيمكث أربعين لا أدرى يوماً او أربعين شهراً او أربعين عاماً فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليهما السلام كانه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه الحديث. (مسلم جلد ۲ ص ۲۰۳)

۲۰۳، مسند احمد جلد ۲ ص ۱۶۶، مستدرک جلد ۲ ص ۵۳۳، کنز العمال جلد ۷ ص ۲۵۸

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور چالیس دن تک رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ چالیس دن ہوں گے یا مہینے یا سال اسی دور میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کو بھیجے گا ان کا حلیہ جیسا کہ حضرت عروہ بن مسعود کا ہوگا اور وہ دجال لعین کو طلب کریں گے اور اس کو ہلاک کریں گے۔

دوسری روایت (جس سے پہلی کی تشریح و تعیین بھی ہے) میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دجال چالیس دن تک زمین میں رہے گا پہلا دن سال جتنا لمبا اور دوسرا مہینے جتنا اور تیسرا ایک ہفتے جتنا لمبا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ مثلاً سال اور مہینہ اور ہفتہ جیسے لمبے دن میں صرف ایک ہی دن کی نمازیں پڑھنا ہوں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلکہ ان دنوں میں سال اور ماہ اور ہفتہ کی نمازیں اوقات کا اندازہ لگا کر پڑھنا ہوں گی۔ (مسلم جلد ۲ ص ۲۰۱)

امام نوویؒ بعض محدثین کرامؓ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس وقت شریعت کا یہی حکم ہوگا اور قیاس و اجتہاد کا اس میں کوئی دخل نہیں (مصلہ نووی شرح مسلم جلد ۲ ص ۲۰۱) اوقات صلوات اگرچہ نمازوں کیلئے اسباب ہیں مگر ظاہری اسباب ہیں حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور امر ہے۔

## دجال کہاں قتل ہوگا؟

حضرت مجمع بن جاریہ الانصاری (التوفی فی خلافت معاویہ تقریباً ۶۰ھ) فرماتے ہیں کہ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ  
بِبَابِ لُدٍّ.

(ترمذی جلد ۲ ص ۲۸، مسند احمد جلد ۳ ص ۴۲۰)

میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام دجال کو لد کے دروازہ پر قتل کریں گے۔

بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام لد ہے۔ اور یہ بستی اس نام سے اس پہاڑ کی وجہ سے ہی معروف ہے جس کا نام لد ہے۔ اسی وجہ سے بعض نے ”لد“ پہاڑ کا نام لکھا ہے۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل دجال کیلئے تیار ہونا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کے قتل کیلئے تیار ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کا فرقو آپ کے سانس کی ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا اور اذان کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد کے پاس اسے گھیر لیں گے اور اسے نیزہ سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔

وہ اس طرح پگھلنا شروع ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کے قتل میں جلدی نہ کرتے تو وہ کافر نمک کی طرح خود بخود پگھل جاتا۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کو جو اکثر یہودی ہوں گے، کثرت سے قتل کرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ملک کی سیر کریں گے اور جن لوگوں کو دجال کی مصیبت پہنچی تھی، انہیں تسلی دیں گے اور ان کے نقصانات کا تدارک کریں گے اور الطاف و

عنایات سے ان کی تلافی کریں گے۔ خنزیر قتل کر دیے جائیں گے اور صلیب جس کو نصاریٰ پوجتے ہیں، توڑ دی جائے گی اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے گا بلکہ وہ اس وقت ایمان لائے گا۔ پس اس وقت تمام روئے زمین پر اسلام پھیل جائے گا۔ کفر مٹ جائے گا اور ظلم و ستم دنیا سے ناپید ہو جائے گا۔ (عمدة الفقہ) (احادیث باحوال گذر بھی ہیں)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک

عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى صُرِبٌ مِنَ الرِّجَالِ  
كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ وَرَأَيْتُ عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا  
أَقْرَبُ مِنِّي رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ  
إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ بِهِ شَبْهًا صَاحِبَكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ  
وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مِنْ رَأَيْتُ بِهِ  
شَبْهًا دَحِيَّةَ

(مسلم ص ۱۷۹۵)

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے سامنے انبیاء علیہم السلام لائے گئے تو موسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے آدمی تھے (نہ بہت موٹے اور نہ ہی بہت دبلے) جیسے شنوؤ (قبیلہ) کے لوگ ہوتے ہیں اور میں نے عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا۔ میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروۃ بن مسعود کو پاتا ہوں اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں (یہ آپ نے اپنے متعلق فرمایا) میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا (آدمی کی صورت میں) ان سے سب سے زیادہ مشابہ دحیہ ہیں۔

ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا۔ وہ



میانہ قد تھے۔ ان کا رنگ سرخ اور سفید تھا۔ بال ان کے سیدھے اور صاف تھے۔

(مسلم ص ۹۵ ج ۱)

سرور کائنات ﷺ نے فرمایا مجھے ایک رات دکھائی دیا کہ میں کعبہ شریف کے پاس ہوں۔ میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا۔ جیسے تم نے بہت اچھی گندم کے رنگ کے آدمی دیکھے ہوں گے۔ اس کے کندھوں تک بال دیکھے۔ جیسے تم نے بہت اچھے کندھوں تک بال دیکھے ہوں گے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی۔ ان میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ تکیہ کئے ہوئے دو آدمیوں پر یا دو آدمیوں کے کندھوں پر اور کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہیں۔

(مسلم ص ۹۵ ج ۱)

## قتل دجال کے بعد خلیفہ عیسیٰ کون ہوگا؟

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”دجال میری امت میں نکلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر لوگ سات برس تک اس طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے درمیان کسی قسم کی دشمنی نہ ہوگی۔“

پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا شام کی طرف سے بھیجے گا تو روئے زمین پر کوئی ایسا شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی یا ایمان ہونہ رہے گا مگر یہ ہوا اس کی جان نکال لے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تم میں پہاڑ کے جگر میں بھی گھس جائے گا، تو وہاں بھی پہنچ کر یہ ہوا، اس کی جان نکال لے گی۔

(مسلم ص ۴۰۳ ج ۲)

## ختم نبوت کا سلسلہ برقرار رہے گا

میرے حضور ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے اس معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے نبوت کے ختم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

أَلَا إِنَّ عِيسَىٰ بِنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ وَبَيْنَهُ

نَبِيٌّ وَلَا رَسُولَ إِلَّا أَنَّهُ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي

(الحديث مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۰۵)

خبردار! بے شک میرے اور عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان اور کوئی نبی اور رسول نہیں آیا واضح ہو کہ بے شک وہ میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور خلیفہ کے آئیں گے ہمارے حضور کی نبوت کو تو ان کے آنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن منکرین حدیث کو بڑا فکر ہے کہ لَانَبِيٌّ بَعْدِي کی سچائی متاثر ہو جائے گی۔ انہیں یہ خطرہ نہیں لاحق رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کر گزریں گے۔ ان تحریروں میں بظاہر منکرین حدیث ختم نبوت کے چوکیدار نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ میں مرزا قادیانی کے دوش بدوش بھی چل رہے ہیں۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آنحضرت ﷺ کی آمد کی

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ، اَحْمَدُ

کے مبارک الفاظ سے بشارت دی تھی اور مخلوق کو آپ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت بھی دی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آپ ﷺ کا گہرا تعلق ہے۔ لہذا ان کا آنا اور آسمان سے نازل ہونا اور آپ کا خلیفہ اور نائب ہونا ضروری ہے۔ (مصلح مع تغیر ہاشم القرین بما تو اترنی نزول المسح ص ۹۴)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے علمبردار

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْبَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.  
(مسلم ص ۸۷۷ ترمذی ص ۱۲۷ ج ۱۱ ابن ماجہ ص ۳۰۸)

روایت کا مفہوم پہلے وضاحت سے بیان ہو چکا ہے کہ وہ کفر کی ہر نشانی کو ختم کریں گے اور اسلام نافذ کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَنْزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.  
(مسلم ص ۸۷۷ ج ۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اس وقت کیونکر ہو گے جبکہ مریم کا بیٹا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) تم لوگوں میں اترے گا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ دوسری روایت ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کا بیٹا تم میں اترے گا تمہاری امامت (سنت کے مطابق) کرے گا۔

## وہ مجتہد ہوں گے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہوئے شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ پیغمبر ہیں مگر ان کی پیغمبری کا دور سرور کائنات ﷺ کی رسالت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو آپ ﷺ کی امت میں شریک ہو کر قرآن و حدیث کے موافق عمل کریں گے۔ یعنی وہ خود مجتہد مطلق ہوں گے اور قرآن و حدیث سے احکام نکالیں گے اور کسی مجتہد

کے تابع نہ ہوں گے۔ یہ بات بعید از عقل ہے کہ پیغمبر کسی مجتہد کے تابع ہو۔ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ لڑتا رہے گا (کافروں اور منافقوں سے) حق پر قیامت کے دن تک اور وہ غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ پھر اس گروہ کا امیر کہے گا آپ آئیں اور نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں تم ہی ایک دوسرے پر حاکم رہو۔ یہ وہ بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کو عنایت فرمائے گا۔ (مسلم ۱۷۸۷)

اتنے بڑے پیغمبر روح اللہ، کلمۃ اللہ مسلمانوں کے امام کی اطاعت قبول فرمائیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ہمارے پیغمبر کی پیروی کریں گے۔ آپ ﷺ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور ثابت فرمایا کہ اب سلسلہ نبوت ختم ہے۔ اس زمانے کے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور آپ ﷺ کے قائم مقام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ کر ثابت کریں گے کہ میں نبی بن کر نہیں آیا حضور ﷺ ہی آخری نبی ہیں وہ بڑی فضیلت اور بزرگی والے ہوں گے۔

## چالیس سال حکومت کریں گے اور وفات پا جائیں گے

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد چالیس سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور حج و عمرہ بھی کریں گے اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوگی اور اہل اسلام ان کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ (احادیث باحوالہ پڑھئے)

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

وانہ یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویفیض المال

حتی یهلك اللہ فی زمانہ الملل کلہا غیر الاسلام

وحتی یهلك اللہ فی زمانہ المسیح الضلال الا عور

الكذاب وتقع الامنة في الارض حتى يرعى الاسد  
مع الابل والتمر مع البقر والذيات مع الغنم ويلعب  
الصبيان بالحيات ولا يعض بعضهم بعضا ثم يبقى  
في الارض اربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه  
المسلمون ويدفونہ.

(ابوداؤد الطيالسی ص ۳۳۵ واللفظ لہ والسنہ رک جلد ۲ ص ۵۹۵ قال الحاكم والذہبی صحیح  
وقال الحافظ فی الفتح جلد ۲ ص ۲۳۸ وفی مجمع الرواۃ جلد ۸ ص ۲۰۵ نیز لہ ابن مریم فی مکتف فی  
الناس اربعین سنہ رواہ الطبرانی فی الاوۃس ورجالہ، ثقات)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام (آسمان سے نازل ہونے کے بعد) صلیب  
توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور مال وافر طور پر تقسیم کریں گے۔ یہاں تک کہ  
اسلام کے بغیر ان کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کو ختم کرے گا۔ حدیث کی  
روشنی میں ان کی وفات، جنازہ اور دفن کے احوال گذر چکے ہیں۔  
اس صحیح حدیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ  
الصلوٰۃ والسلام کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی اور نہ مسلمانوں نے ان کا جنازہ پڑھا  
ہے اور نہ وہ دفن کیے گئے ہیں۔ تاریخ مدینہ کی تمام مستند کتابوں میں ان کی قبر کی جگہ  
کے متعلق وضاحت ہے کہ وہ روضہ رسول میں ہے۔

## حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حج اور عمرہ کریں گے

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے  
نازل ہونے کے بعد حج اور عمرہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ

ان رسول اللہ ﷺ قال والذی نفسی بیدہ لیہلن ابن مریم

بفتح الروحاء حاجًا او معتمرًا او لیشیہما (مسلم جلد ۱ ص ۳۰۸)

بے شک آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری  
جان ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام ضرور حج وروحاء کے مقام پر حج  
یا عمرہ یا دونوں کی نیت کر کے احرام باندھیں گے۔

روضہ رسول پر سلام کریں کے منکرین حیات کیا کریں گے

نُج روجاء مدینہ طیبہ سے سے تقریباً چھ میل دور ایک مقام ہے جیسے ذوالحلیفہ اور آج کل براء علیؑ ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی روایت ہے۔

يقول قال رسول الله ﷺ ليهبطن عيسى بن مريم

حكماً عدلاً حاجاً او يثبهما ولايتين قبرى حتى

يسلم على ولا ردن عليه يقول أبو هريرة اى بنى

أخى ان رائيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام.

(متدرک جلد ۲ ص ۵۹۵ قال الحاكم والذہبی)

وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ البتہ ضرور بضرور حضرت عیسیٰ علیہ

الصلوٰۃ والسلام حاکم عادل اور منصف امام ہو کر نازل ہوں گے اور البتہ ضرور میری

قبر پر آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے اور میں ضرور ان کے سلام کا جواب لوٹاؤں

گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے (شاگردوں سے) فرمایا اے میرے بھتیجے! اگر تم حضرت

عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھو تو کہنا کہ ابو ہریرہؓ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔

منکرین حیات النبیؐ روضہ رسول سے سلام کے جواب کے قائل نہیں ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے سماع کے قائل کو مشرک کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ کون سے الفاظ استعمال کریں گے کیونکہ حدیث ظاہر کر

رہی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ بھی حیات نبوی کے قائل ہیں۔

ان روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حج اور عمرہ کرنا اور جس

میقات (نُج) سے احرام باندھیں گے اس کا پھر آنحضرت ﷺ کی قبر اطہر پر سلام

کہنے اور پھر آپ ﷺ کے جواب دینے کا نہایت ہی تاکید الفاظ سے بیان ہوا

ہے۔ مزید برآں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اور ان سے شرف ملاقات حاصل

کرو تو میری طرف سے میرا نام لے کر عرض کرنا کہ ابو ہریرہؓ نے ہماری وساطت سے

آپ سے سلام عرض کیا ہے یہ تمام امور واضح ہیں۔ منکرین حیات تو ممکن ہے ان کی

آمد پر ہی ان کے خلاف ہو جائیں کیونکہ وہ سرے سے ان کی زندگی کے ہی قائل نہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی بھی قیامت تک زندہ نہ ہوگا۔ ہماری دعوت ہے کہ وہ آج بھی یہ عقیدہ چھوڑ دیں تاکہ لشکر عیسیٰ کی مخالفت میں واصل جہنم نہ ہونا پڑے۔

## حضرت عیسیٰ کے متعلق روایات کا خلاصہ

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم میں نازل ہوں گے۔  
پھر وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی وہ پینتالیس سال تک زمین میں ٹھہریں گے۔ پھر وہ وفات پائیں گے تو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے میں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک ہی قبر سے اٹھیں گے۔  
حدیث بالا سے درج ذیل حقائق معلوم ہوئے۔

- ۱- حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہو کر شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔
- ۲- وہ پینتالیس برس تک زمین پر زندگی بسر کریں گے۔
- ۳- آپ کی وفات ہوگی۔ آپ سردر کائنات ﷺ کے ساتھ مدینہ منورہ میں دفن کیے جائیں گے۔

ایک دوسری حدیث میں اس کے متعلق یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ روایت کرتے ہیں:

مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاتِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو  
مَرْذُودٍ قَدْ بَتَيْ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعَ قَبْرِ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تو رات میں محمد ﷺ اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفت لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ دفن ہوں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابو مردود کہتے ہیں کہ آپ کے گھر (یعنی حجرہ مبارک) میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ (جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے)

ہمارا اصل موضوع احادیث دجال کے متعلق شبہات کا ازالہ ہے اس ضمن میں منکرین حدیث ہمارے مصنفین نے حضرت مہدی کے متعلق بھی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا ہے اس لئے ہم اس اہم عقیدے کی صفائی میں کچھ دلائل دینا چاہتے ہیں ہم نے اس مقصد کے لئے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی مختصر اور جامع تحریر کا انتخاب کیا ہے۔



## حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد

اس موضوع سے متعلق جو احادیث و روایات کسی درجہ میں قابل اعتبار و اسناد ہیں۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمہ اور قیامت سے پہلے آخری زمانہ میں اُمت مسلمہ پر اس دور کے ارباب حکومت کی طرف سے ایسے شدید و سنگین مظالم ہوں گے کہ اللہ کی وسیع زمین ان کیلئے تنگ ہو جائے گی اور ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس اُمت میں سے (بعض روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی نسل سے) ایک مرد مجاہد کو کھڑا کرے گا اس کی جدوجہد کے نتیجہ میں ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ دنیا سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت غیر معمولی برکات کا ظہور ہوگا۔ آسمان سے ضروریات کے مطابق بھرپور بارشیں ہوگی اور زمین سے غیر معمولی اور خارق عادت پیداوار ہوگی جس مرد مجاہد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کا کام کرے گا۔

اس مختصر تمہید کے بعد ناظرین کرام اس سلسلہ کے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا مطالعہ فرمائیں۔

## مہدی کا نام اور مدت خلافت

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ بِأُمَّتِي بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ حَتَّى يَضِيقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَدْخُرُ الْأَرْضُ شَيْئًا مِنْ بَذْرِهَا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ وَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا إِلَّا صَسَّتْهُ وَيَعِيشُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ تِسْعًا.

(رواه الحاكم في المستدرک)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

(آخری زمانے میں) میری امت پر ان کے ارباب حکومت کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی۔ یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کیلئے تنگ ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا۔ اس کی جدوجہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین جس طرح ظلم و ستم سے بھر گئی تھی اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی۔ زمین میں جو بیج ڈالیں گے اس کو زمین اپنے پاس روک کر نہیں رکھے گی، بلکہ اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد ہوگا۔ (بیج کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہوگا) اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھے گا، بلکہ ان کو برسا دے گا (یعنی ضرورت کے مطابق بھر پور بارشیں ہوں گی) اور یہ مرد مجاہد لوگوں کے درمیان سات سال یا آٹھ سال یا نو سال زندگی گزارے گا“ (متدرک حاکم)

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث قرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ ”اِسْمُهُ اِسْمِيْ وَ اِسْمُ اَبِيْهِ اِسْمُ اَبِي“ (اس شخص کا نام میرا والا نام (یعنی محمد) ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کا نام (عبداللہ) ہوگا۔)

یہ حدیث طبرانی کی معجم کبیر اور مسند بزار کے حوالہ سے کنز العمال میں نقل کی گئی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں مہدی کا لفظ نہیں ہے لیکن دوسری روایات کی روشنی میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ مراد حضرت مہدی ہی ہیں۔ ان کا نام محمد اور مہدی لقب ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت مہدی کا زمانہ حکومت سات یا آٹھ یا نو سال بیان

فرمایا گیا ہے لیکن حضرت ابوسعید خدری ہی کی ایک دوسری روایت میں جو سنن ابی داؤد کے حوالے سے آگے ذکر کی جائے گی ان کا زمانہ حکومت صرف سات سال بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل بالا روایت میں جو سات یا آٹھ یا نو سال ہیں۔ وہ راوی کا شک ہو۔ واللہ اعلم

## وہ پوری دنیا کے حکمراں ہوں گے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبِ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوْطَى اسْمُهُ اسْمِي (رواه الترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک یہ نہ ہوگا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک اور فرمانروا ہوگا۔ اس کا نام میرے نام کے مطابق (یعنی محمد) ہوگا۔

اس حدیث میں بھی مہدی کا لفظ نہیں ہے۔ لیکن مراد حضرت مہدی ہی ہے اور سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان کے باپ کا نام (عبداللہ) ہوگا۔ نیز یہ بھی اضافہ ہے

يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلِئْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا

وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔

سنن ابی داؤد کی اس روایت سے اور حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق دوسری بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی پس جامع ترمذی کی زیر تشریح روایت میں جو عرب پر حکومت کا ذکر کیا گیا ہے وہ غالباً اس بنیاد پر ہے کہ ان کی حکومت کا اصل مرکز عرب ہی ہوگا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ بھی ہو

سکتی ہے کہ ابتدا میں ان کی حکومت عرب پر ہوگی بعد میں پوری دنیا ان کے ماتھے پر حکومت میں آجائے گی۔ واللہ اعلم

وہ کشادہ اور روشن پیشانی والے ہوں گے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنْبَى أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ.

(رواہ ابوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

امام مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ روشن اور کشادہ پیشانی، بلند بینی، وہ بھر دے گا روئے زمین کو عدل و انصاف سے جس طرح وہ بھر گئی تھی، ظلم و ستم سے وہ سات سال حکومت کرے گا۔

(سنن ابی داؤد)

اس حدیث میں آنکھوں سے نظر آنے والی دو جسمانی نشانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک یہ کہ وہ روشن اور کشادہ پیشانی ہوں گے اور دوسری یہ کہ بلند بینی (یعنی کھڑی ناک والے) ہوں گے ان دونوں چیزوں کو انسان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں خاص دخل ہوتا ہے۔ اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں خود رسول اللہ ﷺ کا جو حلیہ مبارک اور سراپا بیان کیا گیا ہے اس میں بھی ان دونوں چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ ان دونوں نشانیوں کے ذکر کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حسین و جمیل بھی ہوں گے، لیکن ان کی اصل نشانی اور پہچان ان کا یہ کارنامہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم و عدوان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری یہ دنیا عدل و انصاف کی دنیا ہو جائے گی۔

## وہ سخی ہوں گے

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ

(رواہ مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے  
ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ (یعنی سلطان  
برحق) ہوگا جو (مستحقین کو) مال تقسیم کرے گا اور گن گن کر نہیں  
رکھے گا۔ (صحیح مسلم)

ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب و مدعا صرف یہ ہے کہ  
آخری زمانہ میں میری امت میں ایک ایسا حاکم اور فرماں روا ہوگا، جس کے دور  
حکومت میں اللہ کی طرف سے بڑی برکت اور مال و دولت کی کثرت اور بہتات  
ہوگی اور خود اس میں سخاوت ہوگی۔ وہ مال و دولت کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھے گا بلکہ گنتی  
شمار کے بغیر مستحقین کو تقسیم کرے گا۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

يَخْشَى الْمَالَ خَشْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا

جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر مستحقین کو  
دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔

حدیث کے بعض شارحین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں جس خلیفہ کا  
ذکر فرمایا گیا ہے وہ غالباً مہدی ہی ہیں۔ کیونکہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے  
کہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی برکات کا ظہور ہوگا اور مال و  
دولت کی فراوانی ہوگی۔ واللہ اعلم

وہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد سے ہوں گے

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عَتَرَتِي مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ.

(رواہ ابو داؤد)

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ مہدی میری نسل سے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگا۔

(سنن ابی داؤد)

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشَبِّهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا.

(رواہ ابو داؤد)

ابو اسحاق سمعی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید (سردار) ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ نام (سید) دیا ہے۔ ضرور ایسا ہوگا کہ اس کی نسل سے ایک مرد خدا پیدا ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی والا نام (یعنی محمد) ہوگا، وہ اخلاق و سیرت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت مشابہ ہوگا اور جسمانی بناوٹ میں، وہ آپ ﷺ کے مشابہ نہ ہوگا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا یہ واقعہ کہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔

(سنن ابی داؤد)

اس روایت میں ابو اسحاق سمیعیؒ نے (جو تابعی ہیں) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے پیدا ہونے والے جس مرد خدا کے بارے میں حضرت علیؑ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے چونکہ وہ امور غیب سے ہے اور سینکڑوں یا ہزاروں برس بعد ہونے والے واقعہ کی خبر ہے، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات صاحب (وحی رسول اللہ ﷺ) سے سن کر ہی فرمائی ہوگی۔

صحابہؓ کے ایسے بیانات محدثین کے نزدیک حدیث مرفوعہ (یعنی رسول اللہ ﷺ کے ارشادات) ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہی سے سنا ہوگا۔ اس روایت میں حضرت علیؑ نے حضرت حسنؑ کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید (سردار) ہے۔ جیسا کہ رسول ﷺ نے ان کا یہ نام (سید) تھا، بظاہر اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اشارہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی طرف ہے جو آپؐ نے حضرت حسنؑ کے بارے میں فرمایا تھا:

إِنِّي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ  
عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

میرا یہ بیٹا سید (سردار) ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو بڑے متحارب (برسر جنگ) گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسنؑ کے بارے میں سید کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

## روایات میں مطابقت

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدیؑ حضرت حسنؑ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت حسینؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض شارحین نے ان دونوں میں اس طرح تطبیق

دی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کو خوشخبری دی کہ مہدیؑ ان کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن یہ روایتیں بہت ہی ضعیف درجہ کی ہیں۔ جو روایتیں کسی درجہ قابل اعتبار ہیں ان سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی نسل سے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔

## ایک ضروری انتباہ

حضرت امام مہدیؑ سے متعلق احادیث کی تشریح کے سلسلے میں یہ بھی ضروری معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں اہل سنت کے مسلک و تصور اور شیعہ عقیدہ کا فرق و اختلاف بھی بیان کر دیا جائے۔ کیونکہ بعض شیعہ صاحبان ناواقفوں کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں گویا ظہور مہدی کے مسئلہ پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے۔ حالانکہ یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے۔ اہل سنت کی کتب احادیث میں حضرت امام مہدیؑ سے متعلق جو روایات ہیں (جن میں سے چند ان صفحات میں بھی درج کی گئی ہیں) ان کی بنیاد پر اہل سنت کا تصور ان کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب دنیا میں کفر و شیطنت اور ظلم و طغیان کا ایک ایسا غلبہ ہو جائے گا کہ اہل ایمان کیلئے اللہ کی وسیع زمین تنگ ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اُمت مسلمہ ہی میں سے ایک مرد مجاہد کو کھڑا کرے گا (ان کی بعض علامات اور صفات و خصوصیات، بھی احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان کے ساتھ خاص ہوگی، ان کی جدوجہد سے کفر و شیطنت اور ظلم و عدوان کا غلبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ پورے عالم میں ایمان و اسلام اور عدل و انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقہ پر آسمانی اور زمینی برکات کا ظہور ہوگا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، جو ہماری اس دنیا کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ اور اہل ایمان کیلئے سخت ترین امتحان ہوگا۔ اس وقت خیر و شر کی طاقتوں میں آخری درجہ کی کشمکش ہوگی اور خیر ہدایت کے قائد و



علمبردار حضرت مہدی ہوں گے اور شر اور کفر و طغیان کا علمبردار دجال ہوگا، پھر اسی زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور انہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے فتنے کو ختم کروائے گا۔

الغرض حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کا مسلک اور تصور یہی ہے، جو ان سطور میں ذکر کیا گیا ہے لیکن شیعہ عقیدہ ان سے بالکل مختلف ہے اور دنیا کے عجائبات میں سے ہے اور تھا یہی عقیدہ جو ان کے نزدیک جزو ایمان ہے، ارباب دانش کو اثنا عشری مذہب کے بارے میں رائے قائم کرنے کیلئے کافی ہے۔ یہاں تو صرف اہل سنت کی واقفیت کیلئے اجمال و اختصار ہی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی کسی قدر تفصیل شیعہ مذہب کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس عاجز کی کتاب ”ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

## مہدی کے بارے میں شیعہ عقیدہ

شیعوں کا عقیدہ ہے، جو ان کے نزدیک جزو ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد سے قیامت تک کیلئے اللہ تعالیٰ نے بارہ امام نامزد کر دیے ہیں، ان سب کا درجہ رسول اللہ ﷺ کے برابر اور دوسرے تمام نبیوں و رسولوں سے برتر و بالا ہے۔ یہ سب رسول اللہ ﷺ کی طرح معصوم ہیں اور ان کی اطاعت رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی طرح فرض ہے، ان سب کو وہ تمام صفات و کمالات حاصل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ بس یہ فرق ہے کہ ان کو نبی یا رسول نہیں کہا جائے گا بلکہ امام کہا جائے گا اور امامت کا درجہ نبوت و رسالت سے بالاتر ہے۔ ان کی امامت پر ایمان لانا اسی طرح نجات کی شرط ہے جس طرح رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر ایمان لانا شرط نجات ہے۔ ان بارہ میں سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علیؑ، ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے علی ابن الحسین (امام زین العابدین) ان کے بعد اسی طرح ہر امام کا ایک بیٹا امام ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ گیارہویں امام حسن عسکریؑ تھے جن کی وفات ۲۶۰ھ میں ہوئی۔

## وہ فرنگی کینز کے بیٹے اور سامان امامت کے

### ساتھ غائب ہو گئے

شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ ان کی وفات سے چار پانچ سال پہلے (باختلاف روایت ۲۵۵ھ میں یا ۲۵۶ھ میں) ان کی فرنگی کینز (زرگس) کے لطن سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جس کو لوگوں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا، کوئی ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کو (خاندان والوں کو بھی ان کی پیدائش اور ان کے وجود کا علم نہ تھا) یہ صاحب زادے اپنے والد حسن عسکریؑ کی وفات سے صرف دس دن پہلے (یعنی ۴ یا ۵ سال کی عمر میں) امامت سے متعلق وہ سارے سامان ساتھ لے کر (جو امیر المومنین حضرت علیؑ سے لے کر، گیارہویں امام ان کے والد حسن عسکریؑ تک ہر امام کے پاس رہے تھے) معجزانہ طور پر غائب اور اپنے شہر ”سمرن رائی“ کے ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ اس وقت سے وہ اسی غار میں روپوش ہیں۔ ان کی شیوہ بیت اور روپوشی پر ساڑھے گیارہ سو برس سے بھی زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، شیعہ صاحبان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہی بارہویں اور آخری امام مہدیؑ ہیں۔ وہی کسی وقت غار سے برآمد ہوں گے۔

## حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ اور عائشہؓ کو سزا دیں گے

دوسری بے شمار معجزانہ اور محیر العقول کارناموں کے علاوہ وہ مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور (معاذ اللہ) حضرت ابو بکرؓ پھر حضرت عمرؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کو جو شیعوں کے نزدیک ساری دنیا کے کفاروں، مجرموں، فرعون و نمرود وغیرہ سے بھی بدتر درجہ کے کفار و مجرمین ہیں، ان کی قبروں سے نکال کر اور زندہ کر کے ان کو سزا دیں گے۔ سولی پر چڑھائیں گے اور ہزاروں بار زندہ کر کے سولی پر چڑھائیں گے اور اسی طرح ان کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرامؓ اور ان سے محبت و عقیدت رکھنے والے

تمام سنیوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ اور رسول اللہ ﷺ اور امیر المؤمنین حضرت علیؑ ان تمام آئمہ معصومین اور خاص شیعہ خمین بھی زندہ ہوں گے اور (معاذ اللہ) اپنے ان دشمنوں کی سزا اور تعذیب کا تماشہ دیکھیں گے۔ گویا کہ شیعوں کے نزدیک یہ جناب امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کریں گے۔ شیعہ حضرات کی خاص مذہبی اصطلاح میں ان کا نام ”رجعت“ ہے اور اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔

## رسول اللہ ﷺ بھی ان سے بیعت ہوں گے

رجعت کے سلسلہ میں شیعہ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب رجعت ہوگی تو ان جناب مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت کریں گے، اس کے بعد درجہ بہ درجہ دوسرے حضرات بیعت کریں گے۔

یہ ہیں شیعہ حضرات کے امام مہدی جن کو وہ القائم، الحجة اور المنتظر کے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور غار سے ان کے برآمد ہونے کے منتظر ہیں اور جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور لکھتے ہیں عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ (اللہ جلدی ان کو باہر لے آئے) اہل سنت کے نزدیک اول سے آخر یہ صرف خرافاتی داستان ہے۔ جو اس درجہ سے گھڑی گئی ہے کہ فی الحقیقت شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکریؑ ۲۲۰ھ میں لاؤلف فوت ہوئے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور ان سے اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ باطل ہوتا ہے کہ امام کا بیٹا ہی امام ہوتا ہے اور بارہواں امام آخری امام ہوگا اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الغرض صرف اس غلط عقیدہ کی مجبوری سے یہ بے تکی داستان گھڑی گئی جو غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والے شیعہ حضرات کیلئے آزمائش کا سامان بنی ہوئی ہے۔

افسوس ہے کہ اختصار کے ارادے کے باوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی طوالت ہو گئی لیکن امام مہدی سے متعلق اہل سنت کا تصور و مسلک اور

شیعی عقیدہ کے فرق و اختلاف کو واضح کرنے کیلئے یہ سب لکھنا ضروری سمجھا گیا۔ حضرت امام مہدیؑ سے متعلق احادیث کی تشریح کے سلسلے میں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ ۸ویں صدی ہجری کے محقق اور تاقد و بصیر عالم و مصنف ابن خلدون مغربی نے اپنی معرکتہ الاراء تصنیف ”مقدمہ“ میں امام مہدیؑ سے متعلق قریب قریب ان سب ہی روایات کی سندوں پر مفصل کلام کیا ہے جو اہل سنت کی کتب حدیث میں روایت کی گئی ہیں اور قریباً سبھی کو مجروح اور ضعیف قرار دیا ہے۔ (۱) اگرچہ بعد میں آنے والے محدثین نے ان کی جرح و تنقید سے پورا اتفاق نہیں کیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابن خلدون کی اس جرح و تنقید نے مسئلہ کو قابل بحث و تحقیق بنا دیا ہے۔

والمستول من اللہ تعالیٰ ہدایۃ الحق والصواب

(صفحہ نمبر ۱۲۶ تا ۱۳۵) معارف الحدیث جلد نمبر ۸ ص ۱۲۶ تا ۱۳۵، تالیف مولانا محمد منظور احمد نعمانی

## دجال کے تفصیلی حالات

(۱) لفظ دجال و دجل (جھوٹ، دھوکا) سے بنا ہے۔ اس کے معانی ہیں ”بہت بڑا دھوکا باز جھوٹا“، قرب قیامت میں یہ سب سے بڑا دھوکا باز ہوگا کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آجائیں گے اور اسے خدا تصور کریں گے۔ آنحضرتؐ نے قیامت سے پہلے اور بھی بڑے دھوکا بازوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے بہت سے ظاہر ہو چکے ہیں اور دھوکا دینے میں کامیاب رہے ہیں۔

(۲) دجل کے معنی ”طے کرنا“ وہ کیونکہ پوری زمین کی مسافت طے کرے گا، اس لئے اسے دجال کہتے ہیں۔

(۳) دجال کے معنی ”پھیل پڑنا“ زمین پر اپنے لشکروں سے پھیل جائے گا۔

(۴) دجال کے معنی ”سونے کا پانی چڑھانا“ یہ بھی دھوکے سے اپنے اوپر خدائی کا لیل لگائے ہوگا۔ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ پہلے لگی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہی ان کے فراڈ سے محفوظ رکھا ہے، جو اہل علم و عمل سے واسطہ تھے یا خود اللہ نے انہیں علم و شعور اور عقل سلیم سے نوازا تھا۔

### ابن صیاد کون تھا۔۔۔؟

آنحضرتؐ کے زمانے میں ہی مدینہ منورہ میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کے اندر بہت سی وہ علامات پائی جاتی تھیں جو دجال میں پائی جائیں گی مثلاً وہ اپنے ماں باپ کے ہاں تیس سال بعد پیدا ہوا۔ وہ سوتا تھا لیکن دل جاگتا تھا، ابن صیاد یا ابن صائد اس کا نام تھا۔ آنحضرتؐ کے پاس بھی لایا گیا اور بہت سی نشانیاں اس میں دیکھیں گئیں کتب احادیث میں اس کے متعلق طویل بحثیں ہیں کیونکہ اس میں دجال کی کئی نشانیاں تھیں۔ ہم اسے اس لئے چھوڑتے ہیں کہ عقیدہ سے ابن صیاد کا کوئی

تعلق نہیں، وہ دجال جس کے خروج اور عقیدہ کو اسلام میں جگہ دی گئی ہے وہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اس کے متعلق ہم پوری وضاحت کریں گے۔

## قیامت سے پہلے تیس دجال پیدا ہوں گے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ.

(مسلم ص ۳۹۶ ج ۲، ابوداؤد ص ۲۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تقریباً تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ (دجال کے معنی ہیں مکار، فریبی اور دھوکے باز) ان میں سے ہر ایک یہی گمان (ظاہر) کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

انہیں کذابوں میں سے ایک ”مسلمہ کذاب“ صاحب یمامہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں وحشی (جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا) کے ہاتھوں مارا گیا اور جہنم میں پہنچا۔ یہ ملعون اپنے کلام سے قرآن مجید کا مقابلہ کرتا تھا۔ اس کی ایک عبارت یوں ہے۔

الْفَيْلُ مَا الْفَيْلُ لَهُ خُرُطُومٌ طَوِيلٌ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا الْجَبَلِيلِ.

ایک روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تیس جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر جھوٹ باندھے گا۔

(ابوداؤد ص ۲۳۸ ج ۲)

الغرض یہ جھوٹے دجال، فریبی اور دھوکے باز، سفید جھوٹ بولیں گے اور

قرآن کے مقابلے میں آیات گھڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول ظاہر کریں گے۔ سب سے بڑا دجال جس کا فتنہ عالمگیر ہوگا۔ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔

ہمارے اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بہت بڑا دجل کیا ہے۔ یعنی دعویٰ نبوت کیا اور بہت سے جھوٹے دعوے کیے، اس کے پیروکار آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں اور پوری دنیائے اہل اسلام انہیں کافر تسلیم کرتی ہے۔

ملاحظہ: اسی وجہ سے امت کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہر دعا میں دجال سے پناہ مانگیں کیونکہ دجال کا خطرہ ہر دور میں ہے۔

## دجال سے پہلے تین سال

جب یہ فتنہ ظہور پذیر ہوگا ہر شخص ہی پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے۔ بشرطیکہ اسے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پر یقین ہو۔ اگر منکرین حدیث کی کتب کا مطالعہ کسی خالی الذہن نے کیا ہوگا تو اسے ہرگز یقین نہ آئے گا اور وہ راویوں کی بحث میں پڑا رہے گا۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فتنے سے پہلے کیا ہوگا؟ تاکہ مومنین اس کی آمد سے پہلے اس کی چال بازیوں کے مقابلے کیلئے تیار رہیں۔ اس ارشاد حبیبؐ میں کچھ علامات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔

حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ ﷺ نے دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اس کے ظہور سے پیشتر تین سال ہوں گے۔ پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش روک لے گا اور زمین ایک تہائی نباتات بند کر دے گی۔ دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش اور زمین اپنی دو تہائی نباتات بند رکھے گی اور تیسرے سال آسمان اپنی پوری

بارش اور زمین اپنی پوری روئیدگی روک لے گی۔ چار پاؤں میں سے ہر کھری والا اور دانت والا جانور بلاک ہو جائے گا۔

(مقلوۃ)

ملاحظہ: دجال کا فتنہ ضروریات زندگی کی قلت و کثرت کی بناء پر کامیاب ہوگا اس لئے غالباً بارش و نباتات روکنا پھر جاری کرنا دجال کی آمد سے پہلے اس لئے ہوگا کہ لوگ پھر سمجھ لیں کہ یہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سے کچھ کام نکلتا محسوس ہو تو درحقیقت اس کے پیچھے اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔

## ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَنْتِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، فَذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَهُ، أَنْذَرُ كُفُومَهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَلَكِنِّي سَأْفُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ إِنَّهُ أَعْوَزُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَزَ.

(ابوداؤد ص ۶۲۰۶ ج ۲)

سالم نے اپنے باپ ابن عمرؓ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی جیسا کہ وہ اس کے لائق ہے۔ پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تم سے ایسی بات اس کے متعلق کہہ دیتا ہوں، جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی۔ تم جان رکھو کہ دجال کا نانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کا نانا نہیں ہے۔

(تذکرہ دجال نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور اس سے



مسلسل ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ کیونکہ شیطانی وساوس کے سہارے اپنے کارناموں میں کامیاب ہوگا اس لئے شیطان اپنے اہم ترین فتنے کی راہ ہموار کرنے کے لئے ایسے لوگوں سے ایسی باتیں لکھوار ہا ہے کہ اس کا نمائندہ آئے تو مسلمان بھی اسے گمراہ نہ کریں اور نہ ہی اس سے پناہ مانگیں بلکہ تحقیقات کے نام سے شکوک میں مبتلا رہیں اور اسے اپنے فتنے کو پھیلانے کا خوب موقع مل جائے۔

آپ نے دجال کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: ممکن ہے کہ دجال کو وہ شخص پائے گا جس نے مجھے دیکھا ہے اور میری گفتگو سنی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول ﷺ اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے کیا ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس سے بہتر (کیونکہ باوجود فتنہ کے ایمان قائم رہے گا)۔

آپ ﷺ نے فرمایا میرا ایک صحابی دجال کو دیکھ لے گا اسے مراد تمیم داری ہیں۔ جو دجال کو دیکھ کر آئے تھے اور آپ ﷺ سے اس کا حال بیان کیا تھا۔ اس سے اگلی حدیث میں اس ملاقات کا بیان آ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں دجال نکلے گا اُس زمانے تک مسلمان موجود ہوں گے۔

اس حدیث مبارکہ کے بعد ہم پیارے رسول اکرم ﷺ کی وہ حدیث طیبہ لکھنے لگے ہیں جو ایک طویل واقعہ ہے جو ہم مسلم ابو داؤد ابن ماجہ تحفۃ الاخیار جیسی معتبر کتابوں کے مشترکہ بیانات سے ترتیب دیا ہے۔ اس حدیث شریف پر یہ شبہ ہرگز نہ کیا جائے کہ یہ سارا بیان ایک نو مسلم کا ہے بلکہ اس نقطہ نظر سے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس سارے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے آنحضرت ﷺ نے اس کے سچے ہونے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارا مشاہدہ صحابی اسی کے مطابق ہے جو میں اپنے صحابہ گودھی الہی کی روشنی میں دجال کے متعلق بتاتا رہا ہوں۔ اس ارشاد میں دجال کے بہت سے پہلو واضح ہو رہے ہیں۔

## ایک صحابی رسول کا دجال سے انٹرویو

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا جو اس واقعہ کے موافق ہوا جو میں تمہارے پاس ”مسح الدجال“ کے متعلق بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ (یعنی تمیم داری) تمیں آدمیوں کے ساتھی بحری جہاز میں سوار ہوا جو تخم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ مہینہ بھران سے سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے جا گئے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ گئے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو بھاری دم اور کثیر بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اس کا آگیا پیچھا معلوم نہ کر سکے۔

انہوں نے اس سے کہا ”تیرا برا ہوتا تو کیا چیز ہے؟“

اس نے کہا ”میں جاسوس ہوں“۔ انہوں نے کہا جاسوس کیا ہوتا ہے؟

اس نے کہا ”اے لوگو! اس شخص کے پاس جلد، جو دیر میں ہے کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت ہی شوقین ہے۔ جب اس نے آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو، تمیم نے کہا پھر ہم تیز رفتاری سے چلے حتیٰ کہ ہم اس دیر (اور عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔) دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا قد آور آدمی اور اتنا سخت جکڑا ہوا کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف اس کے دونوں زانوں اور اس کے دونوں ٹخنوں کے درمیان لوہے سے جکڑے ہوئے

تھے۔

ہم نے کہا ”تیری خرابی ہو تو کیا چیز ہے؟“  
 اس نے کہا ”تم نے میری خبر پر قابو پا لیا ہے (یعنی میرا حال تو تمہیں معلوم ہو جائے گا) اب تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟“  
 انہوں نے جواب میں کہا ”ہم عرب کے لوگ ہیں جو سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے۔“ اس کے بعد یہاں تک پہنچنے کی ساری روداد سنا ڈالی اور کہا۔ لہذا ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ہم اس سے ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان (بھوت وغیرہ) نہ ہو۔  
 (مسلم ص ۴۰۳ ج ۲، ابوداؤد ص ۲۳۶ ج ۱)

یہاں پھر اس شخص نے کہا ”مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔“

ہم نے کہا ”تو کون سا حال پوچھتا ہے؟“۔

اس نے کہا ”کہ میں اس کے نخلستان کے متعلق پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھل دیتا ہے؟“۔

ہم نے اسے کہا ”ہاں! وہ پھل دیتا ہے“

اس نے کہا ”عنقریب وہ دوبارہ پھل نہیں دے گا“

اس نے کہا ”مجھے طبرستان کے دریا کے متعلق خبر دو!“

ہم نے کہا ”تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟“

اس نے کہا ”کیا اس میں پانی ہے؟“

انہوں نے کہا ”اس میں بہت سا پانی ہے“

اس نے کہا ”اس کا پانی عنقریب جاتا رہے گا“

(اس سے پہلے ہم حدیث پاک کی روشنی میں وضاحت کر آئے ہیں۔ دجال

کے آنے سے پہلے کیا ہوگا یہ وہی حالات ہیں جو دجال بتا رہا ہے کہ عنقریب ایسا

ہوگا۔ مرتب)

پھر اس نے کہا ”مجھے زغر کے چشمے کے متعلق خبر دو!“

ان لوگوں نے کہا ”تو اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟“  
 اس نے پوچھا ”کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے رہنے والے چشمے  
 کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟“  
 ہم نے اسے بتایا کہ ”ہاں! اس میں بہت سا پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے  
 پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔“

اس نے کہا ”مجھے عرب کے نبی ﷺ کے متعلق خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا؟“  
 ان لوگوں نے کہا ”وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے“  
 اس نے پوچھا ”آپ نے ان عرب والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟“  
 ہم نے اسے بتایا کہ ”آپ عرب والوں پر غالب آئے، جو آپ کے ارد گرد  
 تھے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔“

اس نے پوچھا ”کیا یہ بات ہو چکی ہے؟“  
 ہم نے کہا ”ہاں!“ (ہو چکی ہے)۔  
 اس نے کہا ”خبر دار رہو کہ یہ بات ان (عرب والوں) کیلئے بہتر ہے کہ وہ  
 آپ ﷺ کی پیروی کریں اور اب میں تمہیں اپنے متعلق خبر دیتا ہوں (کہ میں کون  
 ہوں؟)۔“ (مسلم ص ۴۰۴)

## خروج و جہاں کی نشانیاں

- ۱۔ امام مہدی علیہ السلام کا آنا۔
- ۲۔ قریبی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔
- ۳۔ ہزار دن کے قریب بلیستان کے درختوں پر پھل نہ لگنا۔
- ۴۔ بحرہ طبریہ کا پانی خشک ہونا۔
- ۵۔ چشمہ زغر کا خشک ہونا۔
- ۶۔ قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔
- ۷۔ بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی۔

۸۔ عربوں کی تعداد کم اور یہودیوں کی تعداد زیادہ ہونا۔

۹۔ بھوک اور قحط کا عام ہونا۔

یہ وہ علامات ہیں، جو ان روایات میں مختلف جگہ آئی ہیں، جن کو ہم نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔

## دجال کی کہانی، اس کی اپنی زبانی

مسلم شریف کی مذکورہ حدیث میں دجال نے خود بیان کیا میں مسیح الدجال ہوں، البتہ وہ زمانہ قریب ہے۔ جب مجھے (یہاں سے باہر) نکلنے کی اجازت دی جائے گی، تو میں نکلوں گا اور زمین میں سیر کروں گا اور کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، جہاں نہ جاؤں۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے مجھ پر حرام یعنی ممنوع ہیں۔ جب میں ان دونوں شہروں میں جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ کر آئے گا، جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا۔ البتہ اس کے ہرنا کہ پرفرشتے ہوں گے، جو اس کی چوکیداری کریں گے۔

## آج کل دجال کا مقام کہاں ہے؟

پھر رسول اللہ ﷺ نے (بوقت خطاب آپ ﷺ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی) اسے منبر پر مارا، اور فرمایا:

”طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے“ (یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ

ہے)۔

خبردار! میں تمہیں اس کے متعلق خبر دے چکا ہوں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ”ہاں!“ (آپ ﷺ خبر دے چکے ہیں)۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مجھے تمہیں کی بات اچھی لگی۔ جو اس چیز کے موافق ہے، جو میں

تمہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعلق بتلایا کرتا تھا۔

خبردار! رہو کہ بے شک وہ (دجال) دریائے شام یا دریائے

یمن میں ہے، نہیں! بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں ہو۔ (مشرق کی طرف اشارہ کیا) ”فاطمہ بنت قیس نے کہا یہ حدیث میں نے رسول اللہ ﷺ سے یاد رکھی ہے۔“

(مسلم ص ۲۰۵)

## احادیث میں تطبیق

منکرین حدیث بظاہر ایک دوسرے کی مخالف احادیث کو تختہء مشق بنا کر لوگوں کو حدیث رسولؐ سے بدظن کرتے ہیں اور سچے اہل علم آپ ﷺ کے ہر قول کی تعظیم کرتے ہیں اور ان میں مطابقت کرتے ہیں۔

آپ نے دجال کا مقام دریائے یمن فرمایا ہے۔ پھر شاید اسی وقت وحی سے معلوم ہوا کہ مشرق کی طرف ہے۔ لہذا تین بار اس مضمون کو تاکید سے فرمایا۔ چنانچہ اس کے سوا ایک اور حدیث صاف ہے کہ دجال مشرق سے آئے گا۔ ”بیسان“ اور ”زغر“ شام کے دو شہر ہیں اور ”طبرستان“ شام کے پاس ہے۔ معلوم ہوا کہ دجال بالفعل موجود ہے اور قید ہے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔

(تختہ الاخبار)

## دجال کے ساتھی آج اور کل

منکرین احادیث کو دجال کے ان انصار و اعیان میں شامل ہیں جو ان دنوں میں اس کا راستہ ہموار کر رہے ہیں ان کے علاوہ کس کس طرح اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ ہم اس کتاب میں واضح کریں گے مختصراً عرض ہے کہ یہ بڑا دجال ہے، جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ اس کا فتنہ عالمگیر ہوگا۔ اس کے علاوہ چھوٹے دجال اس امت میں بہت ہوئے ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کو دین اسلام

کے خلاف بھڑکا یا اور راہ راست سے ڈگمگایا۔ خوب گرا ہی پھیلائی۔ فرشتوں، جنسٹ اور دوزخ اور معجزات کا انکار کیا اور قرآن و حدیث کے انکار اور معنی میں تحریف و تحویل کر کے لوگوں کو دین اسلام سے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ دجالوں کے مکر و فریب اور دھوکے سے مسلمانوں کی حفاظت کرے اور انہیں سیدھی راہ پر چلتے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔

جب دجال نکلے گا تو آپ ﷺ کے فرمان کے مطابق ”اصفہان“ کے ستر ہزار ”یہودی“ سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔

(مسلم ص ۴۰۵ ج ۲)

جب دجال نکلے گا، تو لوگ دجال کے ڈر سے بھاگیں گے۔ آپ نے فرمایا عرب کے لوگ ان دنوں تھوڑے ہوں گے اور دجال کے ساتھی کروڑوں ہوں گے۔

(مسلم ص ۴۰۵)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا۔ اس زمین کو ”خراسان“

کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسی قومیں ہوں گی، جن کے منہ گویا

کہ وہ تہ بہ تہ ڈھالیں ہیں، یعنی ان کے چہرے چوڑے

(ابن ماجہ ص ۳۰۵)

چوڑے ہوں گے۔

اس حدیث میں عربوں کو دجال کے مخالفین میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک

دجالی چال ہے کہ عربوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تاکہ دجال کی مخالفت کے لئے دلیل

نہ بن سکے۔ اجتماعی کمزوریوں سب مسلمانوں میں ہیں ہمیں عربوں کی قدر کرنی

چاہئے جس طرح آرام کو چھوڑ کر شہزادے جہاد میں آج کل حصہ لے رہے ہیں

حضرت عیسیٰ کا ساتھ بھی یہی دیں گے۔

## دجال کا حلیہ کیا ہوگا؟

اس ارشاد گرامی کے پڑھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے۔ نبیوں کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں اس کا جو مفہوم درست ہے وہ ان کے دلوں میں آ جاتا ہے ان میں سے کسی کو تعبیر کی اجازت نہیں رہتی ہے۔

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ  
يَنْطُفُ أَوْ يَهْرَأُ رَأْسُهُ، مَاءً أَقْلْتُ: مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ  
مَرْيَمَ ذَهَبَتْ أَلْتَفَتْ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِيْمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ  
الرَّأْسِ أَعْوَزُ الْعَيْنِ كَانَ عَيْنُهُ عِنْبَةً طَافِيَةً قَالُوا هَذَا  
الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهٖ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ  
خِزْرَاءَ.

(بخاری ص ۱۰۵۵، مسلم ص ۷۵)

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ جب کہ میں سو رہا تھا میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک شخص گندم گوں رنگ کا، سیدھے بالوں والا دکھائی دیا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مریم کے بیٹے پھر میں دوسری طرف دیکھنے لگا، تو ایک سرخ رنگ کا موٹا شخص نظر آیا۔ اس کے بال کھنکھلے تھے، وہ آنکھ کا کانا تھا، گویا کہ اس کی آنکھ جیسے انگور کا پھولا ہوتا ہے، جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ دجال ہے۔ اس کی شکل و صورت لوگوں میں سے عبدالعزیٰ بن قطن سے ملتی جلتی تھی۔ یہ خزاعہ قبیلے کا آدمی تھا (اور زمانہ جاہلیت میں مر گیا تھا)۔



بعض کے نزدیک وہ مسلمان ہوئے آپ ﷺ نے ان کو سلی دی  
کہ تیرا اس کے مشابہہ ہونا کوئی نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ تم  
مسلمان ہو اور وہ کافر ہوگا۔

حضرت عائشہ صدیقہ عمراتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ آپ ﷺ اپنی  
نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔

(بخاری ص ۱۰۵۵)

یہ امت کی تعلیم کیلئے تھا اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو یہ خبر نہیں  
دی گئی تھی کہ دجال کب نکلے گا۔ آپ کو خیال ہوگا کہ شاید دجال میری زندگی ہی میں  
نکل آئے۔ لہذا آپ اپنی نماز میں اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ آج بھی یہی  
حکم ہے۔

## دجال کی آنکھیں کیسی ہوں گی۔۔۔؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَامَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَاتُّبِيَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنذِرُكُمْ هُوَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

(بخاری ص ۱۰۵۵، ترمذی ص ۲۷۴، ابوداؤد ص ۲۲۵)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں  
میں کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی تعریف کی جس  
تعریف کے وہ لائق ہے۔ پھر آپ ﷺ نے دجال کا ذکر کیا۔  
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس (دجال) سے ڈراتا  
ہوں۔ کہ ہر پیغمبرؐ نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں ابھی  
تمہیں اس کے متعلق ایک بات بتا رہا ہوں، جو کسی پیغمبر علیہ  
السلام نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ (مردود) کاٹا ہوگا اور

اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر علیہم السلام گزرے ہیں سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا۔

ایک روایت میں ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانٹا ہوگا۔ اس کی آنکھ گویا پھولا ہوا، انکور ہے۔ (بخاری ص ۱۰۵۵، مسلم ص ۹۵، ج ۱ ص ۳۹۹) (۲)

## آنکھ کے متعلق روایات میں تطبیق

دجال کے ذکر کے باب میں مختلف روایات ہیں۔ کسی میں دائیں آنکھ کا کانٹا ہونا مذکور ہے اور کسی میں بائیں آنکھ کا۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کافی ہوگی اور دوسری پھولی ہوگی۔

مظاہر حق میں تطبیق لکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو نظر آئے گا بائیں آنکھ سے کانٹا ہے اور کچھ کو دائیں سے۔ پاپے اپنے دیکھنے میں اس کو مختلف دیکھیں گے تو دجال کا دھوکا اور تلون مزاجی اور واضح ہو جائے گی۔ (ملخصاً مظاہر حق جدید ص ۵۵)

کیا دجال کا نام ہوگا۔۔۔؟

## رفع تعارض کی ایک اور شکل

حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. تمہارا رب کا نام نہیں ہے۔

آپ ﷺ نے یہ بات کَلِمَ النَّاسِ عَلَي قَدْرِ عَقُولِهِمْ کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو! اس اعتبار سے فرمایا: ورنہ اللہ جل شانہ جسم سے پاک ہیں۔ اور اللہ جل شانہ اپنی ذات و صفات میں ہر قسم کے عیوب سے پاک و مبراء ہیں۔

(مظاہر حق جدید ۱/۵۹۱)

احادیث دجال کو جن محققین نے موضوع سخن بنایا کر پھر پیچیدہ سوالات اٹھائے اور قوم کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور دجال کی سرزمین ہموار کر رہے کہ اس کے ظاہر ہوتے ہی اس کے اثرات شروع ہو جائیں۔ انہوں نے بغیر تطبیق و تعارض احادیث نقل کر کے اس حدیث کو بھی مشکوک قرار دیا ہے، اس لئے دجال کی آنکھ کے بارے میں احادیث میں تعارض اور اس میں تطبیق کے طور پر عرض ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

كَانَ عَيْنُهُ عَيْنَةً طَافِيَةً

طافیہ کہتے ہیں کہ انگور کا پھولا ہوا دانہ۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں۔ دجال کی آنکھ کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ ان سب میں آپس میں تعارض بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ ان روایات میں تطبیق کی ضرورت ہے کہ یہ کہا جائے کہ دجال کی ایک آنکھ تو بالکل ہی غائب ہے۔ دوسری آنکھ بھی عیب دار ہے، اس معنی کے اعتبار سے اس کی دونوں ہی آنکھوں کو اعور یعنی ”عیب دار“ کہا جا سکتا ہے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ روضۃ الصالحین ص ۱۰۹ جلد دوم)

## اس کی چال اس کے بال اور قد کیسے ہوں گے؟

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ رَجُلٌ قَصِيدٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرٌ مَطْمُوسٌ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِيَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنَّ أَلْبَسَ عَلَيْكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

(ابوداؤد ص ۲۷۳۳)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں دجال کے متعلق خبر دی ہے یہاں تک کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ تم اسے سمجھ نہ پاؤ

گے۔ (اسی لئے خوب وضاحت کرتا ہوں) بلاشبہ دجال پست قد آدمی ہے اور چلتے وقت اس کے پاؤں کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، وہ گھونگر یا لے بالوں والا ہے۔ مٹی ہوئی آنکھوں والا (اندھا) نہ اونچی نکلی ہوئی اور نہ بہت گھسی ہوئی ہیں۔ پھر اگر تمہیں اس پر شک و شبہ ہو تو تم خوب جان لو کہ تمہارا رب تو کانا نہیں ہے (اور دجال کانا ہے)۔

بعض روایات میں لمبا قد بتایا گیا ہے۔ الاشارةً ص ۲۶۳ پر ہے کہ دونوں روایات میں تطبیق یہ ہے کہ وہ چھوٹے قد والا ہوگا، لیکن دعویٰ الوہیت کے بعد لوگوں کے امتحان کے لئے اس کا قد لمبا کر دیا جائے گا۔

## دجال کی سواری

سرور کائنات ﷺ کا فرمان ذی شان ہے کہ دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا۔ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ستر ہاتھ ہوگا۔ (مشکوٰۃ) سواری کے متعلق مکمل بحث آخری صفحات میں آرہی ہے۔

## دجال کی پیشانی کیسی ہوگی؟

اس کی پیشانی کے متعلق احادیث میں ”جلی الجبهة“ کے الفاظ یعنی کشادہ اور چوڑی ہوگی۔ ناک کے متعلق عریض المنخر کا لفظ ہے یعنی چوڑی ناک اور نتھنوں والا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرٌ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاری ص ۱۰۸، مسلم ص ۹۵، ترمذی ص ۳۹، ج ۲، ابوداؤد ص ۱۲۳، ج ۲)

حضرت انسؓ سے انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کوئی پیغمبر ایسا مبعوث نہیں جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو، خبردار! بلاشبہ وہ (مردود) کا نا ہوگا اور بے شک تمہارا پروردگار کا نا نہیں ہے اور یقیناً اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فر لکھا ہوگا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی نبی اکرم ﷺ سے بیان کیا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. (مشکوٰۃ)

مؤمن کی فراست سے بچو! وہ اللہ کے دئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اس حدیث کی بنا پر دجال کے چہرے پر لکھا ہوا لفظ ”کافر“ مؤمن ہی پڑھ سکے گا۔

کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے متعلق کافر کا جو لفظ لکھا ہوگا وہ مؤمن اس کی پیشانی سے پڑھ لے گا خواہ وہ لکھا پڑھا نہ بھی ہو اور کافر اگر لکھا پڑھا بھی ہوگا تو وہ اسے نہ پڑھ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہوگا (اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے دل میں ایمان کا ایسا نور بھر دے گا کہ وہ دجال کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کافر اور جعل ساز بدمعاش ہے اور کافر کی عقل پر پردہ ڈال دے گا وہ سمجھے گا کہ دجال سچا ہے) (ہے)

حق اور باطل کی الگ الگ پہچان ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس لئے آپ ﷺ دعا فرماتے تھے یا اللہ! ہمیں حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ شیطان صفت لوگوں کے دھوکے میں آکر حق و باطل کی تمیز نہ کر سکیں، دجال کے ظہور کے وقت اس صفت کی ضرورت خاص طور پر پڑ جائے گی۔

## دجال کے خروج کی مختصر کیفیت

ہم اس سے پہلے جو ارشادات نبوی لکھ آئیں ہیں یا آگے جو احادیث بیان کریں گے ان کا خلاصہ لکھا جا رہا ہے تاکہ قاری کو تمام واقعات ذہن نشین کرنے

میں آسانی رہے ”عمدة الفقہ“ میں کچھ اس طرح ہے۔

(۱) سرور کائنات ﷺ کا فرمان ذی شان ہے کہ میری امت میں تیس آدمی

نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔

(۲) دجال موعد ایک خاص شخص ہے جو یہود سے ہے، جس کا لقب ”مسح“

ہوگا۔ وہ کانا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کافر (ک ف ر) لکھا ہوگا۔ جس کو ہر

ذی شعور پڑھ لے گا اور اس کی سواری کیلئے ایک گدھا ہوگا۔ وہ ملک شام

اور عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد

اصفہان میں آئے گا اور ستر ہزار یہودی اس کے تابع ہوں گے اور وہاں

وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔

(۳) اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو

وہ بہشت کہے گا اور بہشت میں دوزخ کا اثر ہوگا۔ وہ جس کو دوزخ کہے گا

وہ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی۔ زمین میں فساد ڈالتا پھرے گا اور زمین میں

بادل کی طرح پھیل جائے گا اور اس کے ظہور سے پہلے بڑا سخت قحط ہوگا۔

وہ عجیب و غریب کرشمے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔

(۴) پھر وہ مکہ کی طرف آئے گا، مگر اس کی حفاظت کیلئے فرشتے مقرر ہوں گے

جس کی وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا

قصد کرے گا اور مدینہ منورہ کے اس وقت سات دروازے ہوں گے۔ ہر

دروازے پر دو فرشتے محافظ ہوں گے۔ لہذا دجال اندر نہ جاسکے گا۔

(۵) وہاں سے شہر دمشق کی طرف جہاں ”امام مہدی علیہ السلام“ ہوں گے

روانہ ہوگا۔ امام مہدیؑ اسلامی لشکر تیار کر کے، اس سے جنگ کیلئے تیار

ہوں گے۔ اتنے میں فجر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے شرفی مینار لے

پر زرد حلقہ پہنے ہوئے فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دھرے ہوئے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اسے طلب کر کے قتل کر دیں گے

اور اسلامی احکامات کا مکمل نفاذ ہو جائیگا۔

## دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ قیامت سے پہلے دجال کے ظہور سے متعلق حدیث نبویؐ کے ذخیرہ میں اتنی روایتیں ہیں جن کے بعد اس میں شک و شبہ کی امید نہیں رہتی کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، اسی طرح ان روایات کی روشنی میں اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور مجیر العقول قسم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے، جو بظاہر مافوق الفطرت اور کسی بشر اور کسی بھی مخلوق کی طاقت و قدرت سے باہر اور بالاتر ہوں گے۔

مثلاً یہ کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی (جس کا مندرجہ ذیل بالا حدیث میں بھی ذکر ہے)

○ یہ کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برسے اور اس کے حکم کے مطابق اسی وقت بارش ہوگی۔

○ مثلاً یہ کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ کھیتی اُگے اور اسی وقت زمین سے کھیتی اُگتی نظر آئے گی اور

○ مثلاً یہ کہ وہ جو خدا ناشناس ظاہر پرست لوگ اس طرح کے خوارق دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے ان کے دنیوی حالات بظاہر بہت ہی اچھے ہو جائیں گے

○ وہ خوب پھولتے پھلتے نظر آئیں گے۔

○ اس کے برخلاف جو مومنین صادقین اس کے خدائی کے دعوے کو رد

کر دیں گے اور اس کو دجال قرار دیں گے بظاہر ان کے دنیوی حالات بہت ہی ناسازگار ہو جائیں گے اور وہ فقر و فاقے میں اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا نظر آئیں گے۔

○ یہ کہ وہ اچھے طاقتور جوان کو قتل کر کے اسکے دو ٹکڑے کر دے گا

○ اور پھر وہ اس کو اپنے حکم سے زندہ کر کے دکھا دے گا وہ سب دیکھیں گے کہ وہ جیسا تندرست و توانا جوان تھا ویسا ہی ہو گیا۔

○ الغرض حدیث کی کتابوں میں و جال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے اس طرح کے محیر العقول خوارق کی روایتیں بھی اتنی کثرت سے ہیں کہ اس بارے میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گے اور یہی بندوں کیلئے امتحان اور آزمائش کا باعث ہوں گے۔

### معجزہ اور شعبدہ بازی (استدراج) میں فرق

اس طرح کے خوارق اگر انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو ”معجزہ“ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ معجزات جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے۔

یا رسول اللہ ﷺ کا معجزہ شق القمر اور دوسرے معجزات جو حدیثوں میں مروی ہیں اور اگر ایسے خوارق انبیاء کرام کے متبعین مومنین، صالحین کے ہاتھ پر ظاہر ہوں، تو ان کو ”کرامات“ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اور اس امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات معلوم و معروف ہیں۔

اور اگر اس طرح کے خوارق کسی کافر و مشرک یا فاسق و فاجر داعی ضلالت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو ”استدراج“ کہا جاتا ہے۔ و جال کے ہاتھ پر جو خوارق ظاہر ہوں گے وہ استدراج ہی کے قبیل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ”دارالامتحان“ بنایا ہے۔ انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے اور شر کی بھی اور ہدایت و دعوت الی الخیر کیلئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اور ان کے نامین قیامت تک یہ خدمت سرانجام دیتے رہیں گے اور اضلال اور دعوت شر کیلئے شیطان اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے چیلے چاٹنے بھی پیدا کیے گئے۔ جو قیامت تک اپنا کام



کرتے رہیں گے۔ بنی آدم میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد ﷺ پر ہدایت اور دعوت الی الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا۔ اب آپ ہی کے نائبین کے ذریعے قیامت تک ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کا سلسلہ جاری رہے گا اور اضلال اور دعوت شرکا کمال دجال پر ختم ہوگا اور اس لئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور استدراج ایسے غیر معمولی اور محیر العقول خوارق دیے جائیں گے جو پہلے کسی داعی ضلال کو نہیں دئے گئے۔

اور یہ گویا بندوں کا آخری امتحان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ ظاہر فرمائے گا کہ سلسلہ نبوت و ہدایت خاص کر خاتم النبیین ﷺ اور آپ ﷺ کے نائبین کی ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں وہ صاحب استقامت بندے بھی اس دجالی دنیا میں موجود ہیں جن کے ایمان و یقین میں ایسے محیر العقول خوارق دیکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ بلکہ ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا اور ان کو وہ مقام صدیقیت حاصل ہوا جو اس سخت امتحان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

## دجال کے اختیارات (امتحان ایمان)

قارئین! زندگی امتحان ہے اللہ نے عقل دی ہے اس لئے کہ ظاہری کامیابی و ناکامی کو نظر انداز کر کے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتُمْ اَحْسَنُ  
عَمَلًا

وہ جس نے موت و حیات کو بنایا ہے کہ تمہارا امتحان کرے کہ تم

(سورہ الملک)

میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔

چنانچہ دجال کو بہت سے اختیارات دئے جائیں گے اہل ایمان سب کچھ کے باوجود اس کے منکر رہیں گے اور صرف ظاہری زندگی سے محبت رکھنے والے لوگ اس کے دام ہمہ رنگ میں پھنستے چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ احکام خدا

داڑھی، نماز، شرعی پردہ کی بات جلدی سے سمجھ نہیں آتی اور فیشن کی بات میڈیا سے زور پر ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ اسی طرح دجال بھی ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اس بات کی دعوت دے گا کہ وہ (دجال) پر ایمان لائیں یعنی وہ انہیں کفر کی طرف بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حکم کو قبول کریں گے۔

وہ آسمان کو حکم کرے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو حکم کرے گا تو وہ گھاس اناج وغیرہ لگا دے گی۔ شام کو اس کے ماننے والوں کے جانور آئیں گے ان کے کوہان پہلے سے لہے ہوں گے ان کے تھن کشادہ ہوں گے۔ ان کی کوکھیں تہی ہوئی ہوں گی (خوب سیر ہوں گے)۔

پھر دجال دوسری قوم کی طرف آئے گا وہ اگرچہ قحط سالی میں مبتلاء ہوں گے وہ ان کو بھی کفر کی طرف دعوت دے گا وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اسے کہے گا (اے زمین) اپنے خزانے نکال دے تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی کھیاں نکل کر بڑی مکھی کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔

پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اسے تلوار سے مار ڈالے گا اور اسے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دے گا جیسے کہ نشانہ دو ٹوک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے زندہ کر کے پکارے گا تو وہ جوان سامنے آ جائے گا۔ اس کا چہرہ خوب چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا دجال ابھی اسی حالت میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔

(مسلم ص ۲۷۴۰۱)

لیجئے قارئین! یہ وہ اختیارات ہیں جو بطور امتحان اس بے ایمان کو دیے جائیں گے اور منکرین احادیث ان اختیارات کا مذاق اڑاتے ہوئے ان احادیث کا ہی سرے سے انکار کر رہے ہیں انہوں نے ان ”شعبہ بازووں“ کو معجزہ قرار دے کر راویوں پر خوب چڑھائی کی ہے جبکہ غلطی ان کی اپنی ہی ہے کہ وہ ”جادوگری“ اور ”معجزے“ میں فرق نہیں کر سکے۔

کاش! انہوں نے دجال والی احادیث سے پہلے اسلامی مدارس کی پہلی جامعہ میں پڑھائی جانے والی کتاب ”تعلیم الاسلام“ کا مطالعہ کر لیا ہوتا اور معجزے اور استدراج کا فرق سمجھ لیتے۔

## شعبہ بازوں کا سردار

عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي  
الدَّجَالِ إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَ نَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ وَمَاءُهُ نَارٌ.

(بخاری ص ۱۱۰۵۶ ابن ماجہ ص ۳۰۵)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی طرف سے بیان کیا آپ نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا: اس یعنی دجال کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ بھی ہوگی تو اس کی آگ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔

دوسری روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس کا زمانہ پائے گا، تو اس کی آگ میں چلا جائے گا وہ نہایت شیریں اور ٹھنڈا عمدہ پانی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ”دجال“ ایک شعبہ باز ہوگا یہ سب حقیقی ہوگا لوگوں کے امتحان کے لئے اسے یہ طاقتیں دی جائیں گی، پانی کو آگ اور آگ کو پانی کر کے لوگوں کو بتلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے اُلٹا کر دے گا۔ جن لوگوں کو وہ پانی دے گا ان کیلئے وہ پانی آگ ہو جائے گی اور جن مسلمانوں کو وہ مخالف سمجھ کر آگ میں ڈال دے گا ان کے حق میں آگ پانی ہو جائے گی۔

اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی دجال کا کہنا مانے گا وہ اس کو ٹھنڈا پانی دے گا تو درحقیقت یہ ٹھنڈا پانی آگ ہے یعنی قیامت میں دجال کا کہنا ماننے والا دوزخی ہوگا اور دجال جس شخص کو مخالف سمجھے گا، اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ اس

کے حق میں یہ آگ پانی ہوگی، یعنی قیامت کے روز وہ جنتی ہوگا اور اسے جنت کا بہترین ٹھنڈا پانی پلایا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ دجال کو بھیج کر اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ اس طرح کہ اس کو قدرت دے گا اور بڑے بڑے کاموں کی اس میں طاقت ہوگی۔ جیسے مردوں کو زندہ کرنا، زمین پر پانی برسانا۔ زمین سے خزانے نکالنا یہ سب کام اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے عاجز کر دے گا اور وہ کسی کو بھی نہیں مار سکے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان داروں کو مضبوط رکھے گا۔

دجال اتنی بڑی باتیں دکھائے گا۔ جیسے مردوں کا زندہ کرنا، پانی کا برسنا، جنت اور دوزخ اس کے پاس ہوگی۔ اگر جاہل لوگ اس کے تابع ہوں گے تو یہ بات قیاس سے بعید نہیں ہے کہ ان کو صرف دنیاوی ساز و سامان سے غرض ہوتی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی نے دجال کا اتنا حال نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا آپ نے ارشاد فرمایا: تو کیوں فکر کرتا ہے۔ دجال تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔

میں نے عرض کیا ”اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا ہوگا اور نہریں ہوں گی“۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (ایسا ہوگا مگر) وہ (دجال) اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ذلیل ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس سے وہ مومنوں کو گمراہ نہ کر سکے گا۔

(مسلم ص ۴۰۳ ج ۲)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی مخلوق بھی (شر و فساد میں) دجال سے بڑا نہیں (سب سے بڑا مفسد اور شریر دجال ہے)

## دجال کی دو بڑی شعبہ بازیاں

بس یہی مثال سنت اور جدید فیشن کی ہے کہ سنت پر چلنے والا بعض اوقات بظاہر لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور فیشن والے کی بڑی عزت ہوتی ہے تو حلال و حرام میں تمیز کرنے والا بظاہر نقصان میں اور حرام کمانے والے بظاہر فائدہ میں ہوتا ہے لیکن حقیقت الٹ ہوتی ہے اسی طرح دجال کا معاملہ ہوگا آج بھی صرف ظاہر پر مرنے والے دجالیت سے متاثر ہیں گویا ان کے لئے دجال آچکا ہے، حدیث پڑھئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا (یعنی وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لئے ہوئے ہوگا) اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی۔ وہ دونوں بہ رہی ہوں گی۔ ایک دیکھنے میں سفید پانی معلوم ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی۔ پھر جو کوئی موقع پائے اس نہر میں چلا جائے جو آگ معلوم ہوتی ہو اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر وہ اپنے سر کو جھکائے اور اس میں سے پئے بے شک وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ (مسلم ص ۴۰۰)

آپ ﷺ نے فرمایا جس کو لوگ آگ دیکھیں وہ ٹھنڈا اور بیٹھا پانی ہوگا۔ جو کوئی تم میں موقع پائے اسے چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو اس میں گر پڑے اس لئے کہ وہ شیریں اور پاکیزہ پانی ہے۔ (مسلم ص ۴۰۰، ج ۲)

آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کی ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو۔ وہ کانا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی مانند دو چیزیں ہوں گی۔ جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی اور میں نے تمہیں دجال سے اس طرح ڈرایا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔

(مسلم ص ۴۰۰، ج ۲)

## دجال شہادت سنائے گا

مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت تھا۔ اس کا حلیہ سر پہ پگڑی، مکمل داڑھی، دعاؤں میں رونا، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھ کر، اس سے بہتر تفسیر کرنے والے کو چیلنج اور بے شمار اس طرح کے دعویٰ اور مقالات و مشاہدات تھے کہ اہل علم سے دور عوام بہت جلد اس کے جال میں آجاتے تھے۔ چنانچہ تمام دجالوں کا معاملہ یہی رہا ہے اور سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ کہ منکرین حدیث اپنے آپ کو سب سے بڑا ماہر قرآن بتا کر حدیث سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح دجال عظیم کرے گا کہ لوگ اسے پیر، بزرگ اور ”پہنچی ہوئی سرکار“ سمجھیں۔

گویا علم دین سے دوری کی وجہ سے آج بھی مسلمان بہت سے دجالوں کی لپیٹ میں ہے کہ دشمن ایمان بظاہر مفسر ہیں، لیکن قرآن سے دور، بظاہر حدیث کی محبت کے دعوے لیکن صحیح حدیثوں کا انکار، بظاہر اہل سنت کے دعوے لیکن بدعت سے محبت۔ اللہ بچائے

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الدَّجَالَ فَلْيَنَاءَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ فَمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

(ابوداؤد ص ۲۴۳۵ ج ۲)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو کوئی دجال کی خبر سنے، اسے چاہیے کہ اس سے کنارہ پکڑے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! بے شک آدمی اس (دجال) کے پاس آئے گا تو اس کو یہی خیال کرے گا کہ وہ (دجال) مومن ہے۔ وہ اس کا تابع فرمان ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس کے پاس شبہ والی چیزیں ہیں۔

دجال لوگوں کو ایسی باتیں دکھائے گا کہ لوگوں کا اعتقاد اس پر زیادہ ہو جائے گا

جیسے نئے منکرین حدیث ہیں کہ ایک ایک عمل پر ہزاروں روایات سنانے کے دعوے کرتے ہیں جب ان کے جال میں لوگ پھنس جاتے ہیں تو وہ مرفوع احادیث کا انکار کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ایک عام آدمی حدیث نبویؐ کو بڑی ڈھٹائی سے جھوٹی اور من گھڑت کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح دجال کو لوگ شبہ میں اسے پکا مومن تصور کرنے لگیں گے اور اس کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ علم کی کمی کی وجہ سے ہو گا جن کے ہاں دلالت کا معیار سنت رسولؐ ہے۔

اعمال کے لئے حدیث اور قرآن کو بھی نہیں سنت ثابتہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ شبہات سے بچے رہتے ہیں درجہ سنت کی پہچان نہ کرنے والا شبہات دجال کے خطرے میں ہے اور اہل سنت سے واسطہ لوگ اس کے جال میں ہرگز نہیں پھنسیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن فرمایا ”دجال کے دیکھنے کا موقع جسے مل جائے اس کو چاہیے کہ اس سے دور ہی رہے“ اسی کے بعد یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ:

وَاللّٰهُ اِنَّ الرَّجُلَ لِيَاْتِيَهٗ وَهُوَ يَحْسِبُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهٗ

مما یبحث بہ الشبہات۔ (ابوداؤد وغیرہ)

تو اللہ کی قسم ہے کہ دجال کے پاس آدمی آئے گا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، مگر (ملنے کے ساتھ ہی) اس کا پیرو بن جائے گا، جس کی وجہ وہ شبہات اور شکوک ہوں گے، جو دجال سے ملنے کے ساتھ ہی پیدا ہو جائیں گے۔

## عورتوں کو زیادہ متاثر کرے گا

اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی غیر معمولی مہارت بھی اس میں پائی جاتی ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیروں، نجومیوں اور شعبہ بازوں کے چکر میں پھنسنے والی زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ

جب اس میں یہ صلاحیت پائی جائے گی تو مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں کو متاثر کرے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

اخْر مَنْ يَخْرُجُ اِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى اَنَّ الرَّجُلَ يَرْجِعُ اِلَى  
اُمِّهِ وَبَنْتِهِ وَ اُخْتِهِ وَ عَمَّتِهِ فَيُوَثِّقُهَا بِاِطَاءٍ .

دجال کے ساتھ آخر میں عورتیں بھی نکل پڑیں گی، حالت یہ ہو جائے گی کہ آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی کو اس اندیشہ سے باندھے گا کہ کہیں دجال کے ساتھ نہ نکل پڑیں۔

ایک اور حدیث میں عورتوں کو شیطان کے جال قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا:

النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ . (مشکوٰۃ)

جب یہ عورتیں بے پردگی نیم عریانی لباس، جہالت، گانے ناچ اور رسوم و رواج کی وجہ سے شیطان کا جال ہیں کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے، تو دجال تو ان کو خوب استعمال کرے گا۔ آج عورتوں میں عقیدے کی کمزوری یہ چیزیں دجالیت کی زمین، ہموار کر رہی ہے۔

اسی طرح آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار لوگ ان ظاہری کرشموں کے حامل ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والوں پر اندھا یقین رکھتے ہیں، بعض اوقات قرآن و سنت کے ماہر کی بات کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ ادھر اسی تعلیم کے حامل بے شمار لوگ اپنے فن پر ایسے مغرور ہیں کہ ہر اچھی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں۔

## دجال کو کونسی چیز دجال بنائے گی؟

بہر حال! قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار جو دجال کو عطا کیا جائے گا وہ یہی یا اسی قسم کی دوسری باتیں بھی ہیں۔ جن کی تفصیل دجال کی متعلقہ حدیثوں میں پڑھی جاسکتی ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے دجال کو دجال بنانے والا اس کا وہ طرز عمل ہوگا جو اپنے اس غیر معمولی اقتدار کے استعمال میں وہ اختیار کرے گا اور اس کے نظارہ دکھا کر اللہ سے انسانوں کو دور کر دے گا۔



پروفیسر مولانا مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں:

میرا مطلب یہ ہے کہ قوانین قدرت پر غیر معمولی اقتدار بجائے خود ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی کو دجال بنا دے، بلکہ قرآنی تعلیم کے رو سے تو قدرت کے قوانین سے استفادہ نسل انسانی کے مقام خلافت کا عام اقتضاء ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا جو علم بخشا گیا تھا اسی اجمالی علم کی یہ تفسیر ہے۔ ماسوائے اس کے کون نہیں جانتا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی اسی قسم کا غیر معمولی اقتدار بخشا گیا تھا۔ علوی اجرام یا سفلی اجسام کی تسخیر کی مثالوں سے ان کی زندگی معمور نظر آتی ہے۔

سمندر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب عصا سے پھٹ جانا یا شق القمر کا معجزہ جو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہے یا پھر خود قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکہہ و ابرص کو چنگا بھی کرتے تھے بلکہ مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔

بہر حال پیغمبروں کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کی کیا کمی ہے، مگر پیغمبروں کو یہی اقتدار، جب بخشا گیا تو اپنے اس اقتدار سے جو کام وہ لیتے تھے، اس سے دنیا واقف ہے یعنی اقتدار بخشنے والے قادر و توانا کے شکر سے ان کے قلوب بھی معمور ہو جاتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی خدائے بخشایندہ مہربان کی طرف کھینچتے تھے، تسخیری مظاہر کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سامنے پا کر فرمایا:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ  
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ  
كَرِيمٌ (اہل آیت ۳۰)

یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے مجھے وہ جانچتا ہے کہ میں اس کا گن گاتا ہوں یعنی شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، جو شکر کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اسے معلوم ہو کہ میرے رب کی ذات سب سے بے پروا اور عظمت والی ہے۔

## علم وحی کے بغیر دیگر علوم خطرہ میں ہیں

لیکن اس کے بالکل برعکس جیسا کہ سب جانتے ہیں، دجال اپنے اقتدار کے کرشموں کو اقتدار بخشنے والے خدا سے خود باغی بننے اور دوسروں کو بھی خدا سے بیزار و باغی بنانے میں استعمال کرے گا۔

اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قدرتی اشیاء کے استعمال پر گرفت اگر گمراہی کا ذریعہ ہے تو دجالیت ہے اور اگر اس سے بندہ اپنے مولیٰ سے جا ملتا ہے اور اسے پہچانتا ہے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ دجالیت کے خلاف جہاد ہے جو نبیوں کو ملتا ہے یا ان کی وحی کا علم رکھنے والوں کو اللہ نصیب فرماتے ہیں معلوم ہوا دجالیت سے بچنے کے لئے دنیا کو علم وحی کی اشد ضرورت ہے خواہ وہ اشیاء کے استعمال کی مہارت تامہ والے علوم ہی کیوں نہ جانتے ہوں۔

معلوم ہوا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انسانی ایجادات کی ترقی سے انسان میں دجالیت نہیں آتی بلکہ اسی کے نظریہ کو دیکھا جائے گا کہ چیزوں کے استعمال پر قدرت اسے خدا کا شکر گزار بناتی ہے یا اسے کسی شیطانی دھوکے میں مبتلا کرتی ہے جسے کفر کہا جاتا ہے۔

اس کی یہ خصوصیت اتنی نمایاں ہوگی کہ عوام و خواص ہر ایک پر، بشرطیکہ وہ مومن ہوں، حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی نظر میں اس کے مشن کا یہ امتیازی نصب العین خود بخود واضح ہو جائیگا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ مشہور روایت جو دجال ہی کے متعلق پائی جاتی ہے۔

یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انه مكتوبٌ بينَ عَيْنَيْهِ ك، ف، ر، يَقْرَءُ ه كُلَّ مُؤْمِنٍ

كَاتِبٍ أَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ.

دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ک، ف، ر (کفر) لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا خواہ کاتب ہو یا غیر کاتب۔ (حوالہ گذر چکا ہے)

”کاتب“ یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ اور ”غیر کاتب“ یعنی نوشت و خواندگان کا سلیقہ جن میں نہ ہو، کسی سے بھی دجال کی یہ خصوصیت مخفی نہ رہے گی۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ کفر یعنی ”ک ف ر“ یہی دجالی تمدن و تہذیب کا امتیازی چھاپ ہوگا۔ ماحول ہی ایسا پیدا ہو جائے گا کہ دنیا بے ایمانی، الحاد، بے دینی کی شکار ہوتی چلی جائے گی۔

مولانا گیلانی لکھتے ہیں:

بہر حال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار کا غلط بلکہ قطعی معکوس استعمال، یہی وہ ”فتنہ“ ہے جس میں اسحٰب الدجال خود بھی مبتلا ہوگا اور کوشش کرے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی فتنے کی اس آگ میں دوسرے بھی جھونک دیے جائیں۔ باقی یہ مسئلہ کہ اپنی کرشمہ نمایوں میں وہ کن ذرائع سے کام لے گا؟ ظاہر ہے کہ جب اسحٰب الدجال خود دنیا کے سامنے نہ آجائے، اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا جاسکتا کیا سحر و جادو یا اسی قسم کے غیر مادی ذرائع پر اس کو قابو بخشا جائے گا یا جیسا کہ حافظ ابن حزم محدث کا خیال ہے۔

## ابن حزمؒ کا نقطہ نظر

إِنَّمَا هُوَ مُحَيَّلٌ يَتَّحِدُ بِحَيْلٍ مَعْرُوفَةٍ كُلِّ مَنْ عَرَفَهَا  
عَمَلٍ مِثْلَهُ. (اسئل و اجمل ص ۴۱)

دجال حیلوں سے کام نہ کالے گا، ایسے حیلے جن کا علم جو بھی حاصل کرے گا، وہی سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے، جو دجال دکھائے گا۔

جس کا حاصل یہ ہوا کہ ابن حزمؒ کے نزدیک دجال ”حیل“ سے کام لے گا ”حیلہ“ لفظ کی جو جمع ہے۔ عام طور پر میکانکی طریقوں کی تعبیر عربی زبان میں ”حیل“ کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ مثلاً جرثقیل کے طریقوں کا ذکر ”حیل“ کے ذیل میں کرتے ہیں۔ ”علم الحیل“ نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکانکی طریقوں سے چیزوں

پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں اور یہی ابن حزم کا مقصود بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جگہ ”جالی کرشموں“ کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض مثالوں سے ”دجالی کرتبوں“ کو سمجھانا چاہا ہے مثلاً لکھا ہے کہ اس کی نوعیت وہی ہوگی جیسے بعض لوگ مرغیوں کو ہڑتال کھلا کر دکھا دیتے ہیں کہ گویا مرغیاں مر گئیں، ان کی حس و حرکت غائب ہو گئی پھر ان ہی مرغیوں کے حلق میں زیتون کا تیل جب پڑکاتے ہیں تو پھڑ پھڑا کر اٹھ بیٹھتی ہیں۔

بھڑوں کے متعلق بھی اپنا ذاتی تجربہ نقل کیا ہے کہ پانی میں ہم انہیں ڈال دیا کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب مر گئیں، پھر ان ہی مردہ بھڑوں کو دھوپ میں لا کر تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیتے تو زندہ ہو جاتی تھیں۔

اسی سلسلے میں اپنے وطن (انڈس) کے ایک آدمی محمد محرق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بند کمرے میں یہ تماشا دکھاتا تھا کہ کوئی دوسرا بولنے والا اس کمرے میں موجود نہیں ہے، لیکن بولنے کی آواز اسی کمرے میں گونجتی تھی۔ حافظ کا بیان ہے کہ اس کمرے کی دیوار کے مخفی شکاف میں ٹنگی لگی ہوئی تھی جس سے لوگ نادانف تھے۔ اسی ٹنگی کے دوسرے سرے پر کمرے سے باہر بات کرنے والا بات کرتا تھا مگر محرق باور کراتا تھا کہ کسی بولنے والے کے بغیر اس کے سامنے آوازیں آتی ہیں۔

(اسئلہ داخل)

بحر حال: ان کے خوراق کو جو بھی سمجھا جائے وہ امتحان سے خالی نہ ہوں گے، ایمان اور کفر کی کھلی جنگ ہوگی۔

## دجالی کرشموں کی تعبیرات اور ایمانی تقاضہ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حدیثوں میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ ”دجال“ اس راہ میں کن ذرائع سے کام لے گا اور نہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدرتی قوانین کا علم حاصل کر کے ان کو اپنے قابو میں لائے گا۔

اور یہ قصہ کچھ دجالی کرشموں ہی تک محدود نہیں ہے، قیامت سے پہلے آئندہ

پیش آنے والے جن واقعات کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، سب ہی کے متعلق یہ مناسبت ہے کہ دیکھنے سے پہلے خواہ مخواہ اپنی طرف سے ان کے اسباب و علل کے متعلق فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ (مثلاً روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے اچانک مرنے اور ختم ہو جانے کے بعد جب زمین ان کی گندگیوں سے صاف ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر زمین پر آئیں گے تو بیان کیا گیا ہے کہ نشوونما کی قوت زمین کی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک ایک انار سے بڑی بڑی ٹولیاں سیر ہو جائیں گی اور انار کا خول دانوں کے نکال لینے کے بعد جو رہ جائے گا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہی ٹولیاں اس کے سائے میں قیام کریں گی۔ ایک طرف اس خبر کو رکھئے۔

اور دوسری طرف غور کیجئے ان تجربات پر جو جاپان میں ایٹم بم کے چلنے کے بعد کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں چلایا گیا تھا، وہاں کی زمین میں جو چیزیں بعد کو بوئی گئیں تو اپنی مقدار میں حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا کہ وہ بڑھی ہوئی ہیں۔ شلجم، مولیٰ وغیرہ کی جو جسامت اس سلسلہ میں بیان کی گئی ہے، عام حالات میں اس کا باور کرنا مشکل ہے۔)

## کیا تہذیب مغرب دجالیت کا نام ہے؟

پچھلے دنوں بعض لوگوں نے عجلت سے کام لے کر یورپ و امریکہ کے موجودہ تمدن و تہذیب کو دجالی تمدن و تہذیب قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ بھی جو کر دیا کہ ”اسخ الدجال“ جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ آ گیا اور اب مسلمانوں کو ”دجال“ کے انتظار کی زحمت نہ کھینچنی چاہیے، اس میں شک نہیں کہ یہ فیصلہ بھی زود فکری اور زود بیانی کے عارضہ کا نتیجہ تھا اور اب بھی جن لوگوں کو اس خیال پر اصرار ہے تو سمجھنا چاہیے کہ زود فکری کے مرض سے وہ شفا یاب نہیں ہوئے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار پھیلی دو ڈھائی صدیوں میں یورپ و امریکہ والوں کا مسلسل قائم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اپنے اس اقتدار کو ان

ممالک کے باشندے بھی ان ہی ”دجالی اغراض“ میں جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے، استعمال کر رہے ہیں۔ ”کفر“ یعنی کفر والحاد یا خدا سے بیزاری یا انحراف موجودہ مغربی تہذیب کا ایسا عام چھاپ ہے جسے ہر جاہل و عالم بشرطیکہ ایمان کی کوئی کرن اپنے اندر رکھتا ہو، جانتا اور پہچانتا ہے۔ خالق کی مرضی کے مطابق اس کے بندوں کے آگے زندگی کا جو نظام خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے، اس نظام زندگی کی طرف سے پشیمردگی اور افسردگی پیدا کرنے میں آج یورپ جن چابک دستیوں سے کام لے رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے نبوت کی وہ پیشین گوئی سمجھ میں آتی ہے کہ مومن دجال کے پاس جائے گا، لیکن جب واپس لوٹے گا تو طرح طرح کے شکوک و شبہات کی چنگاریاں اپنے اندر بھڑکتی ہوئی پائے گا۔

## عورتوں میں دجالی اثرات

یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مردوں سے متجاوز ہو کر عورتوں کو بھی فتنہ کی یہ آگ گھیرتی چلی جا رہی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ”اسپرینچولیزم“ کے شیطانی تجربات کے دعویٰ پیش کر کے اُس معیار ہی کو یورپ والوں نے چاہا کہ مشتبہ کر دیں جس سے مذاہب و دیانات کے سلسلہ میں حق و باطل کو جانچا جاتا تھا۔ اگر واقعی یہ مان لیا جائے کہ جن مخفی روحوں سے مکالمہ کا ادعاء اس طبقہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شیاطین نہیں، بلکہ گزشتہ مرے ہوئے لوگوں کی واقعی روہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مرنے کے بعد والی زندگی کی بھلائی اور برائی، خیر و شر کا تعلق، ان امور سے نہیں ہے جن کے ساتھ خیر و شر کے نتائج کو مذاہب وابستہ قرار دیتے ہیں۔

## خدائی دعویٰ کے مترادف دعاویٰ

اور یہ بھی صحیح ہے کہ گو صاف صاف واضح لفظوں میں خدائی کا دعویٰ یورپ کی طرف سے ابھی دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے لیکن جس فکری رفتار کا لوگوں کو اس زمانے میں عادی بنا دیا گیا ہے، اس رفتار کا آخری نتیجہ یہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ

بجائے خدا کے سب سے آخری اقتداری قوت کا نجات کی بنی نوع انسانی کو تسلیم کر لیا جائے۔ مسئلہ ارتقاء جو مغربی طریقہ فکر کی تنہا مخصوص راہ ہے، وہی اس نتیجہ تک خود بخود سوچنے والوں کو پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ انسانوں میں بھی چونکہ آج ہر قسم کی طاقتوں اور قوتوں کا مرکز یورپ و امریکہ ہی بنا ہوا ہے۔ اسی ”خدا“ کے لفظ کا اطلاق خواہ مغربی تہذیب و تمدن کے نمائندوں پر نہ کیا جائے لیکن خدا اگر اسی طاقت کا نام ہے جس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے تو آج ان دلوں کو چیر کر دیکھئے جو مغربی تمدن کے زیر اثر ہیں ان کے اندر سے یہی عقیدہ اور احساس باہر نکل پڑے گا۔ یعنی یورپ و امریکہ والوں سے بڑا کوئی نہیں ہے۔

ان ہی پر سارے کمالات کی انتہا ہوتی ہے۔ جو کچھ اس تہذیب و تمدن کے متعلق لکھا پڑھا جاتا ہے اور جس قسم کی گفتگو یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ کے متعلق عوام و خواص کی مجلسوں میں کی جاتی ہے۔ رسالوں، اخباروں، سینماؤں اور ٹھیٹروں میں جو کچھ سنایا اور دکھایا جاتا ہے، شعوری و غیر شعوری طور پر یہی اثر ان سے دماغوں اور دلوں میں جاگزیں ہوتا چلا جا رہا ہے۔

## حقیقی دجال یا اس کے نشانات

کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر بایں ہمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کھلے کھلے صاف لفظوں میں خدائی کا دعویٰ ابھی نہیں کیا گیا ہے اور تو انین قدرت پر بھی ان کا اقتدار بلندی کے اس نقطہ تک ابھی نہیں پہنچا ہے۔ جس نقطہ پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”اسح الدجال“ کا اقتدار پہنچ جائے گا۔ اس کی کوشش جیسا کہ سنا جاتا ہے ان ممالک میں ہو رہی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا راز بھی دریافت کر لیا جائے۔ ایسی خبریں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں کہ بعض حیوانوں بلکہ شاید انسانوں تک کے متعلق احیاء موتی یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا عمل کامیاب ہو چکا ہے، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بادلوں پر بھی قریب ہے کہ قابو پا لیا جائے۔ مگر انصاف کی بات یہی ہے کہ صحیح کامیابی، جیسی کہ چاہیے، اس راہ میں مغرب کی جدید تہذیب اور اس کی

ارتقائی و صنعتی کوششوں کو ابھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے سوا بھی ایسے مختلف وجوہات و اسباب ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ نبوت کی پیشین گوئیوں میں جس ”اسح الدجال“ کا ذکر جن خصوصیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے خروج و ظہور کا دعویٰ ابھی قبل از وقت ہے۔

## یہ دجال کے لئے راستوں کی ہمواری ہے

ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”اسح الدجال“ کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے، (جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے مختلف عوامل کی نشاندہی کی ہے) کیونکہ اپنی اقتداری قوتوں سے وہی کام یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں بھی لیا جا رہا ہے جس میں ”اسح الدجال“ اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا۔ خدا بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر دل عزیز بنانے کی راہ یورپ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے، لیکن بجائے خدا کے خود اپنی خدائی کے اعلان کی جرأت اس میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔

”اسح الدجال“ اسی قصے کی تکمیل کر دے گا۔ کچھ بھی ہو، صحیح اور صاف ججی تلی بات جس میں خواہ مخواہ نہمت کے الفاظ میں کھینچ تان اور ریک تادیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی ہے کہ ”اسح الدجال“ کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، مگر ”اسح الدجال“ جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا، اس فتنے کے ظہور کی ابتدا کسی نہ کسی رنگ میں مان لینا چاہیے کہ ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن ”دجالیت“ کی آگ یقیناً بھڑک چکی۔ آخر حدیثوں ہی میں یہ بھی تو آیا ہے کہ ”اسح الدجال“ سے پہلے ”دجالہ“ کا ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد تیس اور بعضوں میں ستر چھتر تک بتائی گئی ہے۔ ”دجال“ سے پہلے ان ”دجالہ“ کی طرف ”دجالیت“ کا انتساب بلاوجہ نہیں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”اسح الدجال“ جس فتنے کو پیدا کرے گا کچھ اسی قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے ”دجالہ“ دنیا کو مبتلائے کفر کر دینے میں کوئی



کسراٹھانہ رکھیں گے۔ (چنانچہ تعلیم کے اداروں میں بھی ایک سازش کے تحت اسلامی تعلیمات کو خارج اور کفریات کو شامل کیا جا رہا ہے)

## تعلیم کے میدانوں میں دجالیت

ایک ایسا نظام تعلیم زبردستی نافذ کرنے کی کوشش ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو دجالی طریقہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ اہل پاکستان سے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر ایک ایسا تعلیمی نظام مسلط کیا جا رہا ہے جو انسان کو صرف روٹی کپڑا اور مکان کا غلام بنا دے اور اس میں سے وہ سپرٹ نکل جائے جس سے دجال کا راستہ روکا جائے گا۔ (جسے ہم پہلے علم وحی کے نام سے متعارف کرا چکے ہیں) اس سے زبردستی روکا جا رہا ہے کہ

(۱) مدارس بند کر دیے جائیں

(۲) ان کے نظام تعلیم کو بھی سکول اور کالج کی طرز پر استوار کیا جائے،

(۳) آغا خان کا نظام تمام سکولوں میں رائج ہو، جس میں اسلام نام کی

کوئی چیز نہیں ہے۔

بے دینی ہی بے دینی ہے۔ اگرچہ یہ جنگ بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ ایک تعلیم حضرت عیسیٰ کے مجاہدین پیدا کر رہی ہے تو دوسری تعلیم دجالیت کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ ایک آداب و اخلاق و فکر آخرت کا نمونہ ہے تو دوسری صرف پیٹ کا گورکھ دھندا ہے، جس میں انسان اپنی فطرت کو بھی مسخ کر دیتا ہے حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ مولانا گیلانی لکھتے ہیں:

مقصد یہ ہے کہ کسی بچے کیلئے کائنات کی محبوب ترین ہستیاں، یعنی ماں باپ کا وجود آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ خبیثوں اور دیوانوں کا وجود بن کر رہ جاتا ہے۔

اکبر مرحوم نے تو صرف کتابوں کا تذکرہ کر کے یہ شعر لکھا تھا:

ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں

کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں

لیکن سچ یہ ہے کہ کتابوں کے ساتھ ساتھ ریڈیو، سینما، افسانے، تصویریں (اور اب ٹی وی، وی سی آر، کمپیوٹر کا غلط استعمال اور کیا کیا بتایا جائے کہ کن کن ہتھکنڈوں سے کام لے کر ایک مسموم ماحول کا سانچہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں ڈھل ڈھل کر نکلنے والوں کی اکثریت بے ساختہ دیکھنے والوں کے دماغ میں کے ”قرآنی الفاظ“ کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔

فَحَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (القرآن)

اندیشہ ہوتا ہے کہ اپنے طغیان و سرکشی کفر (ارتداد) سے اپنے مومن والدین کو یہ مغلوب کر لیں گے۔

مثلاً: بعض ادہام یا شاعرانہ خیالات، جن میں ایک ارتقاء کا نظریہ بھی ہے، مردہ، بے جان مادے سے عالم کے زندہ نظام کو نکالنا اور یہ باور کرنا کہ ارسطو اور نیوٹن جیسے دانشمند اچانک مٹی کے ڈھیلے سے اہل پڑے، ظاہر ہے کہ آسان نہ تھا۔ اسی لئے مردہ مادہ اور حیاتی مظاہرے کے درمیان کروڑوں اور بے شمار مدارج کے پردے چھوڑ دیے گئے تاکہ عوام کا حافظہ یہ بھول جائے کہ مٹی کے ڈھیلے سے یہ ارسطو کو نکال رہے ہیں۔ بہر حال نظریہ ارتقاء کا ایک نتیجہ یہ بھی نکالا گیا ہے کہ ہر پچھلی نسل اگلی نسلوں سے ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ علامت قیامت میں أَنْ تَسْلِدَ الْأُمَّةَ رَبَّتْهَا (جنے گی لوٹھی اپنی مالکہ کو) ہو سکتا ہے کہ اس میں دماغی معکوسیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔

ادھر خالص مادی رجحانات کے اس دور میں شعوری طوڑ پر انسانی زندگی کو شکم مارو و شکم قبر کے درمیانی وقفہ ہی تک محدود ہو جانے کے خیال کو اس ”دجالی تہذیب“ اور جاہلی تمدن نے ایسا مسلط کر رکھا ہے کہ اب اجر و معاوضہ صرف وہی ہے، جس سے زندگی کے اس محدود وقفہ میں استفادہ آدمی کر سکتا ہو۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں اجر و معاوضہ کے اس معیار کی ضمانت نہ ہو، قطعاً حاصل کام اور نفع عبث قرار پا چکا ہے۔

(عام طور پر سوال ہے کہ قرآن و سنت پر مکمل عبور تفقہ فی الدین کی اعلیٰ

صلاحیت کے ساتھ اگر نوکری کی زمانت نہیں ہے تو (نعوذ باللہ) یہ کیا علم ہے؟

## دجالی فتنوں کا علاج اور اس کی مخالفت

یہ اور قریب قریب اسی ذیل کے دوسرے ”زہریلے جراثیم“ جو اس فتنے کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بنی آدم کے گھرانوں میں پھیل چکے ہیں اور پھیل رہے ہیں، ان کا علاج ہر دور کے لئے یہ ہے۔

(۱) اَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ

لِكَلِمَتِهِمْ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. (کھف)

پڑھتا رہ اس کو جو تیرے رب کی کتاب سے تجھ پر وحی کی گئی کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں، اور نہ پائے گا تو گوشہ انزوا اس کے سوا۔

(آپ دیکھ رہے ہیں کہ ننانوے فی صد مسلمان بھی اس آسانی نسخہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایسے اداروں سرے سے ختم کرنے کی کوشش ہے جہاں سے قرآنی تعلیم حاصل ہوتی ہے) کیونکہ

حاصل اس کا یہی تھا کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ پر جن علوم و معارف کی وحی ہوئی، ان ہی کی تلاوت اور ان ہی پر اپنی زندگی کو منطبق کرنے کی کوششوں میں ان رفقاء کے ساتھ مشغول رہنا جن کے متعلق اسی کے بعد فرمایا گیا ہے کہ:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيَةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور مراد بنائے ہوئے

ہیں اسی کے چہرے کو اور دوسری بات وہی جس کا حکم:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.

بول اسی سچائی کو جو تیرے رب سے تجھ تک پہنچی ہے، پھر جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔

ملاحظہ: اس آیت میں صحبت صالح کی دعوت دی گئی ہے۔ خانقاہی نظام کی مخالفت اور اہل اللہ کے کردار و عمل کو بڑے بے ڈھنگے پن سے پیش کر کے انسانیت کو اس دواء سے متفر کیا جا رہا ہے جو دجالی نظام کی تکلیف کا علاج ہے۔ بہر حال: یہ تصویر کا رخ اور اس کا علاج عرض کیا گیا ہے۔

## تصویر کا دوسرا رخ

دوسری طرف کچھ افراد دین محمدی کا پرچم اٹھائے اس دجالیت کے سامنے مسلسل برس پیکار ہیں یہ سلسلہ آنحضرتؐ سے شروع ہو کر آج تک تو اتر سے جاری ہے کہ دنیا اور اس کے تمام تر وسائل کے غلط استعمال کو روکا جائے اور اللہ کے قانون پر زندگیاں استوار ہوں۔ اسے مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے ”کہنئی زندگی“ سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے دنیا اور اس کی دجالیت کو نظر انداز کر کے خالصتاً آخرت کی راہ سوچی اور سب سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف ہو گئے، آج کی شرعی زندگی بھی اس کی مثال ہے۔ مولانا گیلانی لکھتے ہیں:

بظاہر دیکھنے میں ”کہنئی زندگی“ کے یہ مشاغل آسان ہی کیوں نہ نظر آتے ہوں، لیکن فتنے کے جن دنوں میں ان مشاغل کا مکلف ان لوگوں کو بنایا گیا ہے، جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے ساتھ جینا بھی چاہتے ہیں اور اسی پر مرنا بھی چاہتے ہیں، تجربہ اور مشاہدہ بتا رہا ہے کہ حالات نے اس آسان زندگی کو بھی حد سے زیادہ دشوار بنا دیا ہے۔ اور کچھ نہیں، اس فتنے کی ان ہی تین نمایاں خصوصیتوں کو سوچئے، جن کی طرف مذکورہ بالا سطروں میں اشارہ کیا گیا ہے۔

دور کیوں جائیے، بطور مثال آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب یورپ و امریکہ سے موجودہ دجال فتنہ کا سیلاب مشرق کی طرف اُٹا اور اس کے روح کش، ایمان رُبا تھیٹروں کی زد میں شاید سب سے پہلے ہمارا ملک ہندوستان ہی آیا اور مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں تہہ و بالا ہو گئی۔ چاہنے والوں نے پہلے تو یہی چاہا کہ ظلم ہی کا ازالہ کیا جائے، لیکن تجربے نے بتایا کہ ظالم کے ہٹنے کا وقت ابھی

نہیں آیا ہے۔ تب کبھی زندگی کے مذکورہ بالا مشاغل کیلئے دینی مدارس کا نظام ملک کے مختلف گوشوں میں قائم کیا گیا اور ایسے زمانہ میں قائم کیا گیا جب اسی ہندوستان میں یورپ کے علوم جدیدہ کی تعلیم کیلئے ملک کے طول و عرض میں اسکولوں اور کالجوں کا جال مختلف یونیورسٹیوں کے تحت بچھایا جا رہا تھا۔ اُن جدید جامعات اور کلیات و مدارس کے طویل و عریض سلسلے کے مقابلے میں غریب ”عربی مدارس“ کی جو حیثیت تھی وہ تو خیر تھی ہی، ماسوا اس کے عربی کی ان تعلیم گاہوں کے قیام میں نہ اخباروں میں پروپیگنڈے سے کام لیا گیا، نہ پریس کی دنیا میں بالچل پیدا کی گئی، دیواروں اور نمایاں مقامات پر نہ لمبے چوڑے پوسٹر آویزاں اور چسپاں کیے گئے، نہ شہروں اور قصبوں میں کانفرنسوں اور سالانہ اجتماعات کے تماشوں کا نظم کیا گیا، نہ ان کیلئے اپنا خاص لٹریچر تیار کیا گیا، بلکہ انتہائی کسمپرسی کے حالات میں گننام قصبوں اور دیہاتوں کی مسجدوں کے گوشوں میں کچھ پڑھنے والے اور پڑھانے والے سمٹ گئے تھے۔

تعلیمی نصاب نقائص و عیوب سے معمور تھا۔ نہ عصری تقاضوں کے مطابق علوم و فنون کی کتابیں اس میں شریک تھیں اور نہ دنیا کی موجودہ علمی زبانوں میں سے کسی زبان کو اس نصاب میں جگہ دی گئی، مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ پر جن علوم کی وحی کی گئی تھی) ان کے ساتھ عہد قدیم کے بعض قدیم ”فہرستہ فنون“ کی کتابیں اور وہ بھی انتہائی بے دلی کے ساتھ ان عربی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی تھیں۔

الغرض ظاہر ہو یا باطن، اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان مدارس میں شکاف ہی شکاف اور خرق ہی خرق دیکھنے والی آنکھوں کو نظر آ رہے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ اور شاید اب تک ہے کہ یورپ و امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک و اقالم تک ہی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خود ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے یا کم از کم ان کی قدر و قیمت سے نا آشنا ہی رہا۔

اس دلچسپ لطیفہ کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ جامعہ عثمانیہ کے پرووائس چانسلر (نائب امیر جامعہ) مرحوم قاضی محمد حسین صاحب بھی کچھ دن رہے تھے۔ قاضیوں

کے خاندان سے نسلی تعلق تھا، اس لئے قاضی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لڑو مآ کر لکھا کرتے تھے، پنجاب کے رہنے والے تھے، ہندوستانی یونیورسٹیوں کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یورپ گئے اور ریاضی میں ریننگر کی ڈگری حاصل کی۔ مسلمانوں میں چند ہی افراد نے یہ امتیازی ڈگری اور وہ بھی ریاضی جیسے فن میں حاصل کی تھی۔

کہنا یہ ہے کہ بسا اوقات سلسلہ ذکر میں دیوبند کے مدرسہ کا نام جب آتا تو قاضی صاحب انتہائی معصومیت کے ساتھ پوچھا کرتے کہ مولانا! یہ مدرسہ پنجاب میں شاید اس جگہ ہے جہاں نمک کے پہاڑ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں! ہاں! بچپن میں ایک دفعہ اس جگہ گیا بھی تھا۔ میں نے کئی دفعہ ان کو مطلع بھی کیا، لیکن حافظہ کی سخت جان کی وجہ سے نمک کے پہاڑ کا مغالطہ ان کے دماغ سے نہ نکلا، حالانکہ وہ بیچارے صرف مسلمان دوست ہی نہیں اسلام دوست آدمی بھی تھے۔ بہر حال دوسروں کے متعلق کیا کہوں۔

اپنے دینی مدارس کی ان شکستہ حالیوں اور پڑھنے پڑھانے والوں کی شکستہ بالیوں، ان کی کسمپرسیوں، ناقدریوں کو دیکھ دیکھ کر خود میراجی بھی ہمیشہ کڑھتار ہا اور جو عیوب و نقائص ان میں ہیں، ان کو میں اب بھی عیوب و نقائص ہی سمجھتا ہوں، لیکن جیسے کھلے دماغ کے ساتھ ان کو تالیوں کا مجھے اعتراف ہے، اسی کے ساتھ اس واقعہ اور مشاہدہ کا بھی کیسے انکار کروں کہ ہمارے ان مدارس کے جن ننگانوں اور کوتاہیوں کو دیکھ دیکھ کر ہی خواہوں کی طرف سے نو حوائیوں اور ماتم سرائیوں کا سلسلہ اس قسم کے الفاظ و تعبیروں میں جاری تھا، کہا جاتا تھا کہ یہاں سے پڑھ پڑھ کر نکلنے والے:

نہ سرکار میں کام پانے کے قابل

نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل

نہ بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل

نہ جنگل میں ریوڑ چرانے کے قابل

اور اسی لئے بعض فیصلہ کرنے والوں نے یہ فیصلہ تک کر دیا تھا کہ

ان سے تو اب تلافی مافات ہو چکی  
بس لوٹ دو بساط کہ یاں مات ہو چکی

لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ مذکورہ بالا عیوب و نقائص سے پاک کر کے ان مدارس کو بھی عصری جامعات اور کلیات کے مطابق اگر بنا دیا جاتا اور جن صلاحیتوں کے فقدان کا مرثیہ ان کے متعلق پڑھا جا رہا تھا اگر ان صلاحیتوں کے پیدا کرنے کا سامان بھی کر دیا جاتا تو دینی فتنے کے پچھلے تاریک و تاریکوں میں بچی کھچی نجات کی کچھ کشتیاں ان لوگوں کو جو میسر آتی رہی ہیں، جو ایمان و عمل صالح کی زندگی کے ساتھ قبر کے کناروں تک پہنچنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں، کیا ہم نجات کی کشتیوں کو پاسکتے تھے؟ یہ ان ہی گھمبیری دینی مدارس کا طفیل ہے کہ اسلامی گھرانوں کے چند ایسے افراد کی دینی تربیت و پرداخت کا موقع مل گیا جو سرفرازی اور سر بلندی کے عصری سامانوں سے اگر لیس ہوتے تو بجائے پرانے قصبات کی اجڑی ہوئی مسجدوں، سونی خانقاہوں کے ماننے کہ لندن کے انڈیا آفس اور پارلیمنٹ میں وہ نظر آتے یا کم از کم ہندوستان کی اسمبلیوں، کونسلوں، ہائی کورٹوں کی زیب و زینت بن کر وہ ختم ہو جاتے۔

بلکہ تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ دین کے جن مدارس میں وقت کے تقاضوں کی رعایت کی گئی، حکومت کی نگاہوں میں وہ چڑ گئے، پھر ان کے ختم ہی کر دینے کا ارادہ کیا گیا یا ان کو بھی اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ چل تو وہ رہے ہیں، اب بھی، دینی مدارس ہی کے نام سے، لیکن جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے کام کس کے آرہے ہیں۔ یہ سامنے کے واقعات اور مشاہدات ہیں ہر دیکھنے والی آنکھ ان نتائج کو دیکھ رہی ہے۔ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی رنگ کے دینی مدارس کے خضر صفت بانوں نے خرق و شگاف کے ان عیوب و نقائص کو ان میں کن مصلحتوں کے تحت باقی رکھا، صرف یہی نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان ماؤں کے بچوں کو ان کی گودوں سے چھین چھین کر عصری جامعات اور یونیورسٹیوں میں داخل کر کے طغیان و سرکشی، الحاد و ارتداد کے ”کفرانہ جراثیم“ ان

کے دل و دماغ میں ایک طرف پرورش کرنے والے پرورش کر رہے تھے۔ ٹیٹا کٹر اقبال مرحوم ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلاتے رہتے تھے، مسلمانوں کو چونکاتے کہ:

الحذر از دسبرد روزگار، گیر فرزندان خود را در کنار

## مدارس و مراکز دینیہ کی اہمیت

دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہمارے یہی کہنشی مدارس تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے ایک طبقے کو خواہ ان کی تعداد جتنی بھی کم ہو، اعتقادی و اخلاقی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی۔ میں کلی طہارت و زکوٰۃ و پاکیزگی کا مدعی نہیں ہوں لیکن بایں ہمہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہنشی سلسلہ کی تعلیم گاہوں میں تعلیم پانے والوں میں ایسے افراد عموماً پیدا ہوتے رہے ہیں جو قرآنی الفاظ خیراً مِنْهُ زکوٰۃ بہتر ہو اس سے (اعتقادی اور اخلاقی پاکیزگی) کے مصداق بن سکتے ہیں۔ یعنی اعتقادی و اخلاقی پاکیزگی جیسی چاہئے، اس کے وہ مالک ہوں یا نہ ہوں لیکن فتنہ زدہ، دجالی یونیورسٹیوں کے طیلسانیوں کی اکثریت کے مقابلے میں نسبتاً اضافی پاکیزگی کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور گو معاشی نقطہ نظر سے جدید تعلیم گاہوں کے پڑھنے والوں کی حالت بظاہر بہتر ہی کیوں نہ نظر آتی ہو، لیکن دین کے متعلق ان کی کافی تعداد نے اپنے طرز عمل سے خود یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام کیلئے ان کا عدم ان کے وجود سے بہتر تھا۔

جس قسم کے شکوک و شبہات کی چنگاریاں عام مسلمانوں میں ان کی طرف سے اڑائی گئیں، اسلامی عقائد و اعمال کی تحقیر و توہین کے سلسلہ میں جن ناگفتنیوں اور ناکردنیوں کے وہ مرتکب ہوئے خود ان ہی نے ان کو اس فیصلہ کا مستحق بنا دیا کہ اسلام کے ”ان کپوت فرزندان“ کی نیستی ان کی ہستی سے یقیناً بہتر تھی۔ بلکہ نعم البدل بچے کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے عملی درس کی تشریح و توجیہ کرتے ہوئے اَقْرَبُ رُحْمًا کے الفاظ جو فرمائے تھے، مطلب جن کا بیان اسلامی



تعلیمات میں ہے کہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رحم و کرم، محبت و شفقت کے برتاؤ میں اس رشتے کے اقتضاؤں سے بجائے دور ہونے کے وہ قریب تر ہوگا، میرا ذہن تو ان الفاظ سے کچھ ادھر بھی منتقل ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب کہ کہنی زندگی کی تعلیم گاہوں کی بظاہر فرغانہ یوں سے تعلیم پانے والوں کو یہ جو نظر آتا ہے کہ نسبتاً محروم کر دیتی ہے، شاید اس محرومی سے محفوظ رہنے کی عملی تدبیر کی طرف ممکن ہے ان الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہو۔

## مذہب سے خالی تعلیم جدید کا ایک عمومی اثر

### اور دجالیت کی طرف ایک قدم

حدیث طیبہ میں ہے:

أَكْثَرُ اتِّبَاعِ الدِّجَالِ مِنَ الْيَهُودِ وَالْعَجَمِ وَالتُّرُكِ  
وَإِخْلَاطِ مِنَ النَّاسِ غَالِبُهُمُ الْأَعْرَابُ وَالنِّسَاءُ.

دجال کے پیروکاروں میں یہودی، عجمی، ترکی اور مخلوط لوگ ہوں گے اور ان میں اکثر دیہاتیوں اور عورتوں کی ہوگی۔

(کتاب اثرات الساعۃ)

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم جدید کا ایک عمومی اثر اور خام نتیجہ جو یہ نظر آتا ہے کہ ماں باپ کی امداد سے اپنے آپ کو بے نیاز پانے کے ساتھ ہی ان سے بھی اور جن جن سے رشتہ والدین کے توسط سے قائم ہوا تھا، سب ہی کو ٹھوکر مار کر دیکھا جا رہا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے اعصابی نظام پر عموماً عورت یعنی بیوی ہی سوار ہو جاتی ہے۔

مذکورہ حدیث میں عورتوں، دیہاتیوں اور یہودیوں کو اس کا گردہ گنا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے جدید تعلیم اور اس کے طرز تربیت کی وجہ سے دجال کے جال میں پھنس جائیں گے اور کچھ لوگ جہالت کے ذریعہ اور عورتیں تو

آج بھی شعبہ بازوں کے ہاتھ اتر آتی ہیں۔ اور والدین کی نافرمانی اور ان سے نفرت یہودی نظام میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ والدین کو اولاد کمپوں میں رکھ کر بظاہر تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بارے وہ ہلکے ہو گئے، لیکن بجائے ”ناقہ سواریلی“ کے جب کسی ”مرد سواریلی“ کے ہاتھوں میں ان کا معاشی نظام آ جاتا ہے، تجربہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے بعد ہر فراغت ان کیلئے تنگی ہی بنتی چلی جائے گی۔ نسوانی خواہشوں کے بے تھاہر سمندر میں زرد نقرہ کی دلیل بھی حقیر کیڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آخر چھٹکلیا کے حلقہ کی قیمت بھی جہاں ہزاروں سے متجاوز ہوتی ہو، وہاں اس کے سوا خود سوچے کہ اور امکان ہی کس چیز کا ہے؟ اس راستہ پر جو بھی پڑ گیا، ایک ایسی راہ پر چل پڑا ہے جس کا نہ اور ہے اور چھوڑ۔ لیکن بجائے اس کے تھوڑی تھوڑی آمدنی رکھنے والے ایک ہی ماں باپ کے چند بھائی جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں یعنی ”اَقْرَبُ رُحْمًا“ کی قرآنی روشنی میں معاشی زندگی کو منظم کرنے کا موقع خوش قسمتی سے، جن کو مل جاتا ہے، تو تجربہ ہی آپ کو بتائے گا، تھوڑی آمدنی بھی کیسے عجیب و غریب طریقے سے بڑی سے بڑی آمدنی سے حاصل ہونے والی مسرتوں کو ان کے قدموں پر نچھاور کرتی ہے۔ اخلاص و محبت کی یہ ”خاندانی زندگی“ کیسے آڑے دقتوں اور کٹھن گھڑیوں میں مشکل کشائی کے معجزوں کے ساتھ سامنے آتی ہے۔

بہر حال: مجھے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے ”اَقْرَبُ رُحْمًا“ کے الفاظ میں ان معاشی نقصانات کی تلافی کی ایک نچھنی عملی تدبیر پوشیدہ نظر آتی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ ”کھشی مدارس“ کے طلبہ بھی بتدریج فتنہ زدہ جامعات کی مسموم ہواؤں سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور رجمی رشتہ کے تقاضوں سے زیادہ ان پر بھی ازدواجی رشتہ ہی کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یقیناً ایسی صورت میں اپنی معاشی بد حالیوں کے وہ خود ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔

اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اجر و مزد کے خیال سے بالاتر تعمیر دیوار کا جو عملی نمونہ اس آبادی میں پیش کیا تھا، جس کے باشندوں نے ان کی تحقیر تو وہیں کو

آخری حدود تک پہنچا دیا تھا، آپ چاہیں تو ان ہی کھنٹی مدارس میں جو دجالی فتنے کے استیلاء و تسلط کے بعد اس ملک میں قائم ہوئے، ان میں اس نمونے اور اس سارے پہلوؤں کا کسی نہ کسی شکل میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں ہی کے اسلاف نے معارف و علوم کا جو متروکہ سرمایہ دنیا میں چھوڑا تھا اور حکومت کی دیوار جس وقت اس ملک میں منہدم ہو رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کا یہ موروثی ترکہ بری طرح متاثر ہو گیا تھا، آنے والی نسلیں جدید جامعات اور یونیورسٹیوں میں بھیڑیاں دھسان کی شکل میں دھنستی چلی جا رہی تھی، ”مسلمان درگور و مسلمانی در کتاب“ کا دردناک نظارہ بے نقاب ہو کر دھمکیاں دے رہا تھا کہ کچھ دن اور بھی غفلت سے اگر کام لیا گیا تو کتابوں والی مسلمانی بھی کیڑوں کے پٹوں میں ڈن ہو جائے گی۔

## دجال کے ماننے والے کون ہوں گے؟

حدیث طیبہ میں ہے کہ:

لوگ دجال کے پیروکار بتائے گئے ہیں ان میں ضعیف الاعتقادی صبر کی صفت سے عاری۔ کفر کے مقابلے میں بزدلی، دنیاوی عز و جاہ کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی الفت میں کمی۔ اہل علم سے دوری اور جاہل لیٹروں پر جان فدائی جیسے اوصاف مشترک ہیں۔ ہمارے بڑوں نے امت کو ہر دجال سے بچانے کی فکر کی ہے اور اس کا حل پہلے ہی سوچا تھا۔ انہوں نے دور انگریز کی دجالیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا حل تلاش کرنے کے لئے ایسے اقدامات کئے کہ دجال جب بھی آجائے کچھ لوگ اس کا پورا پورا مقابلہ کریں مولا نا گیلانی لکھتے ہیں۔

لیکن چند ”خضر و ش“ خضر خصال“ بزرگوں نے کمر ہمت چست کی۔ وہ یہ تو نہ کر سکے کہ جیسے تیرہ سو سال سے جو کتابیں حکومت کے آئین و دستور کی حیثیت سے استعمال ہو رہی تھیں، اس کی اس حیثیت کو باقی رکھیں، لیکن مسلمانوں کے صالح اسلاف کے اس ”موروثی ترکہ“ کی حفاظت اور ایک نسل سے دوسری نسلوں تک اس

کو مسلسل منتقل کرنے کا ایسا بندوبست بہر حال انہوں نے کر دیا کہ جب مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں سے کسی نسل کو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانے کا موقع کبھی مل گیا اور ایمانی ہوش، دینی حواس پھر ان میں کبھی واپس ہوئے تو اس وقت بالکل تروتازہ حالت میں اپنے اس موروثی ترکہ کی ایک ایک چیز انشاء اللہ تعالیٰ ان کو مل جائے گی۔ جس طرح چاہیں گے، ان سے وہ اس وقت مستفید ہو سکتے ہیں اور گو خود مسلمانوں کی طرف سے ان کی عزت و آبرو کی دھجیاں اڑائی گئیں، ان کا نام مسجد کے ملائے، خیرات کی روٹیاں توڑنے والے، قتل اعموڈیے، ازیں قبل ”نسنابز بالا لقب“ کی جو صورتیں بھی ممکن تھیں، شاید ہی کوئی صورت ایسی باقی رہ گئی ہے جسے اختیار کرنے والوں نے اس راہ میں اختیار نہ کیا ہو۔

لیکن بایں ہمہ اجر و معاوضہ کے خیال سے بلند و بالا ہو کر یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اس خدمت کو جس کی قیمت دوسری جگہ سیکڑوں اور ہزاروں کی شکل میں مل رہی تھی۔۔۔ اسی خدمت کو بخدا۔۔۔ اس خدمت کو۔۔۔ اللہ کے یہ وفادار بندے اور رسول علیہ السلام کے سچے راستباز جان باز، خدام بغیر معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے ساتھ بصد خندہ جبینی انجام دینے میں مشغول رہے۔

مثلاً حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ ہی کو میں نے دیکھا ہے کہ جب دیوبند میں حدیث کا درس بغیر کسی تنخواہ کے وہ برسوں سے دے رہے تھے، اسی زمانہ میں ڈھا کہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کی صدارت ہزار روپے ماہوار کی تنخواہ کے ساتھ پیش ہوئی، لیکن یہی نہیں کہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، بلکہ زمانہ تک خود مدرسہ کے اراکین کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔

حضرت شیخ الہند کے متعلق یہ کون باور کرے گا کہ ماہوار پچھتر روپے ان کے نام سے جو درج تھے، ان میں سے کل پچاس لے کر پچیس روپے بہ چندہ مدرسہ کے واپس فرما دیتے تھے اور اسی پچاس میں مسرت نشاط کی قابل رشک زندگی تقریباً نصف صدی تک بسر کرتے رہے۔ کوئی چاہے تو طویل فہرست دیوار کے ان معماروں کی تیار کر سکتا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے صالح اسلاف کے ”موروثی

ترکہ“ کو آئندہ نسلوں تک بغیر کسی معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے پہنچانے کا انتظام کیا۔ نَوَّرَ اللَّهُ مَصَاجِعَهُمْ۔ (تذکیر سورہ کہف مولانا مناظر احسن گیلانی ص ۲۰۰)

بحر حال یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جو دجال نظام تعلیم اور رحمانی طرز تعلیم میں جاری ہے اور ان ہی دونوں تہذیبوں کا ٹکراؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور ان کی موجودگی میں ہوگا۔ آخر حق غالب ہوگا، حکومت اللہ والوں کی ہوگی اور دنیا اسلام کے نور سے جھمک اٹھے گی۔

## ایمان کا ایک اور امتحان ”بھوک“

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات میں زور دیا ہے کہ اس کی مخلوق یہ سمجھے کہ روزی دینے والی ذات، صرف ”اللہ“ ہے۔ مخلوق خواہ وہ بڑی سے بڑی ہو وہ اللہ ہی کی محتاج ہے۔ انسان اسے روزی و عزت کا مالک نہ جانے اس تعلیم کے مطابق جن کا ایمان پختہ ہوگا انہیں دجال متاثر نہ کر سکے گا۔ کھانا نہ ملنے پر بھی وہ حدیث کے مطابق تسبیح سے سیر ہو جائیں گے، لیکن جن کے یقین کچے ہوں گے، جو ہر معاملے میں ظاہر پر نظر رکھتے ہوں گے وہ روزی کے انبار کی وجہ سے دجال کے ساتھ رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے، جو مال کے ڈھیر کی محبت میں آج بھی ایمان و اعمال کی پرواہ نہیں کرتے۔ مال چاہئے خواہ سود سے ہو اپنی عزت خطرے میں ڈال کر ہو۔ اس کا حصول ہی مقصد زندگی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے:

قَالَ مُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتَهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَفْرُكُ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلٌ خُبْرٌ وَنَهْرٌ مَاءٌ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.

(بخاری ص ۱۰۵۵)

حضرت معیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں جتنا میں نے دجال کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا۔ یعنی

اکثر دجال کا حال آپ سے پوچھا کرتا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھے شیطان سے کوئی نقصان نہیں ہے (کیونکہ میں ابھی آپ لوگوں میں موجود ہوں) میں نے عرض کیا (اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول!) لوگ کہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی ایک نہر ہوگی۔ آپ نے فرمایا (پھر اس سے کیا ہوتا ہے) اگر یہ بات بھی ہو جب بھی اللہ کے نزدیک وہ کچھ مال نہیں ہے۔

یعنی باوجود اس بات کہ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں، تب بھی وہ اللہ کے نزدیک اس کے لائق نہ ہوگا کہ لوگ اسے خدا سمجھیں کیونکہ وہ کانا اور عیدار ہوگا اور اس کی پیشانی پر کفر کا لفظ مرقوم ہوگا۔ جسے دیکھ کر تمام مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ مردود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی تم میں سے موت سے ہمکنار ہوئے بغیر رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ دجال کو لوگ دنیا میں دیکھ لیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جھوٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کر دیں گے جو اس کی بے بسی کی علامت ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں جو کچھ دجال کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ پانی کا ایک دریا ہوگا اور ایک آگ کی نہر ہوگی جس کو تم آگ سمجھو گے وہ پانی ہوگا اور جس کو پانی سمجھو گے وہ آگ ہوگی۔ لہذا جو کوئی تم میں سے دجال کے زمانے کو پائے تو وہ جس کو آگ سمجھے، اس میں سے پئے تو عنقریب وہ اس کو پانی ہی پائے گا۔

(ابوداؤد ص ۲۷۳۵)

## دجال سفر تیزی سے کرے گا

دجال کے متعلق آپ نے جو کچھ سنا ہوگا یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب

اس کی طرف کیا گیا ہے، سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیر ان کی یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر ”غیر معمولی اقتدار“ اس کو بخشا جائے گا مثلاً مسافت یعنی مکانی فاصلوں کو صفر کے درجہ تک گویا اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کی تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ”جیسے بارش کو تیز آندھی اُڑالے جاتی ہو“ کچھ یہی صورت اس کی رفتار ہوگی۔

آج لوگوں کے سامنے ہوئی جہاز کی شکل میں جو سواری آچکی ہے ان کیلئے نبوت کی بیان کی ہوئی اس تشبیہ کے سمجھنے میں شاید کچھ دشواری نہ ہوگی، باقی اسی سلسلہ میں دجال کے گدھے کا عام چرچا جو عوام میں پھیلا ہوا ہے، اس میں شک نہیں کہ عام شہرت اس گدھے کو ضرور حاصل ہوگئی ہے لیکن صحاح کی کتابوں میں دجال کے متعلق حدیثوں کا جو ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ اس کو اس گدھے کے ذکر سے ہم خالی پاتے ہیں۔ البتہ ابن عساکر وغیرہ کی ایسی کتابیں جن کی روایتوں کا معیار صحت بہت کچھ بحث طلب ہے۔ ان میں حمار کے لفظ سے دجال کی سواری کا ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ جو ہم نے مشکوٰۃ کے حوالے سے پہلے لکھا۔ مگر آگے جو تشریحی صفات اس حمار یا گدھے کے بیان کیے گئے ہیں مثلاً یہی کہ اس گدھے کے دونوں کانوں کے بیچ کا فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یعنی ۴۰ باع ہوگا اور حضرت علیؓ کے خطبہ میں تو اس گدھے کے ایک ایک کان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ میں تیس ہاتھ کے برابر ہوں گے اور اس سے بھی عجیب تر اس کی یہ صفت کہ اس گدھے کے ایک قدم کا فاصلہ دوسرے قدم سے اتنا طویل ہوگا کہ عام حالات میں اس فاصلہ کو لوگ ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔

الفاظ عربی کے یہ ہیں:

مَا بَيْنَ حَافِرِ حَمَازِهِ إِلَى الْحَافِرِ الْآخِرِ مَسِيرَةُ يَوْمٍ

(ص ۵۳ ج ۲ خلاصہ کنز)

وَلَيْلَةٍ.

ایسی صورت میں گدھے والی روایت کی صحت اگر تسلیم بھی کر لی جائے، جب

بھی ”حمار“ کے لفظ سے عموماً جو بات سمجھ میں آتی ہے دجال کے گدھے کی حقیقت چاہیے کہ اس سے مختلف ہو۔ بظاہر تفہیم کا یہ ایک تمثیلی طریقہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ ہمارے سامنے جو گدھے ہیں ان میں یہ خصوصیتیں کہاں مل سکتی ہیں۔ آج مچھلی کی شکل ہوئی جہازوں کی بنائی جاتی ہے۔ اگر کبھی گدھے کی شکل یا قالب ان ہی کو عطا کر دی جائے تو کیا تعجب ہے۔ آگے بھی اس تمثیلی بیان کی کچھ تشریح آرہی ہے۔

صحیح مسلم کے الفاظ ”کالغیث استندبرته الريح“ کا مطلب یہی ہے اور یہ کہ کرۂ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ، یورپ و امریکہ وغیرہ کے ایک ایک گاؤں تک رسائی اس کی چالیس دن میں ہو جائے گی تو اس ابن سمان والی روایت کے الفاظ فلا ادع قرية الا هبطتها فی اربعین لیلۃ (مسلم) سے یہی سمجھ میں آتا ہے اور یہ حال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا۔

## آواز دور تک پہنچا سکے گا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کنز العمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلہ میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ

يُنَادِي بِصَوْتِهِ يَسْمَعُ بِهِ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ

(غلام کنز العمال ج ۲ ص ۷۵۳ برمنہ احمد)

پکارے گا دجال ایک ایسی آواز سے جسے خافقین (مشرق و مغرب) کے درمیان رہنے والی سنیں گے۔

جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف ”رفار“ بلکہ ”آواز“ کے سلسلہ میں بھی فاصلہ کا مسئلہ دجال کے زمانہ میں غیر اہم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی کتاب میں مستدرک حاکم کے حوالہ سے عبد اللہ بن عمرو کی ایک روایت دجال ہی کے متعلق جو پائی جاتی ہے، اس میں بھی ہے کہ ”دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے باشندے سنیں گے“۔

(ص ۲۹۶ ج ۲ کنز)



کیا بعید ہے کہ ریڈیو اور دیگر اسباب پر قابض ہو جائے اور اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دے لیکن یہ ضروری نہیں ہے البتہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ آواز کا فتنہ بھی آج ظاہر ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا قبضہ ہے جو دجال کی فوجی بینیں گے۔

اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علاج و معالجہ کے طریقے ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ الاکمہ (مادر زادان دھسے) الابرص (کوڑھی) تک کو چنگا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ (کنز ص ۲۷۳۸)

## زراعت میں ترقی نظر آئے گی

یہ بھی بیان کیا گیا ہے سَخِرَتْ لَهُ أَنْهَارُ الْأَرْضِ (یعنی زمین پر بہنے والے دریاؤں اور نہروں پر بھی اس کو قابو عطا کیا جائے گا) جس سے معلوم ہوا کہ سیرابی کے ذرائع میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ثَمَارُهَا كَأَضَافَةٍ بِيَدِهِ (یعنی زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ سیرابی کے ذرائع پر قابو یافتہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے اور یہی نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مون سونی برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائے گی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ:

يَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتَمْطُرُ وَالْأَرْضَ فَتَنْبُثُ. (ص ۲۷۳۸ کنز بر مند)

بادل کو حکم دے گا تو برسنے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو اُگانے لگے گی۔

اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداواروں کے سوا زمین کے پیٹ کے معدنی ذخیروں کو برآمد کرنے میں غیر معمولی کوششوں کا دجال اظہار کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ:

وَيَمْرُ بِالْخَرَابَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَتُتْبِعُهُ

كُنُوزَهَا. (ص ۲۷۳۸ کنز)

اجازت زمینوں پر گزرے گا اور کہے گا کہ نکال اپنے ذخیروں کو،

پس یہ ذخیرے اس کے پیچھے ہو لیں گے۔

## مردوں کو زندہ کرنا، ظاہر کرے گا

اور ان ہی روایتوں میں دجال کی طرف یُعْجِي المَوْتِي (یعنی وہ مردے کو زندہ کرے گا) کے الفاظ جو منسوب کیے گئے ہیں، ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی ہے کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا بھی۔ صحاح میں ہے کہ زندہ آدمی کو چیر کر رکھ دے گا اور پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اسی کو زندہ کر دے گا۔ اور کچھ اسی نقطہ پر ختم ہوتا نظر نہیں آتا، بلکہ روایتوں کے اس حصے پر غور کیجیے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کرشمہ یہ بھی دکھائے گا کہ بعض خبیث روحوں یعنی ”شیاطین“ لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے، اور تمہارے ہم مرے ہوئے باپ یا مری ہوئی ماں یا دوسرے عزیز ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

وَيُعِثُّ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَنْ قُدِّمَاءَ مِنَ الْآبَاءِ  
وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَخْوَانِ وَالْمَعَارِفِ فَيَأْتِي أَحَدَهُمْ إِلَى  
أَبِيهِ أَوْ أُخِيهِ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا، أَلَسْتُ تَعْرِفُنِي

(کنز العمال ص ۴۵)

اور اٹھائے جائیں گے، دجال کے ساتھ، بعض شیاطین، ان لوگوں کی شکلوں میں جو مر چکے ہیں، یعنی باپ، ماں، بھائی اور جانے پہچانے لوگ، پھر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس جائے گا، تب وہی پوچھے گا کہ میں فلاں آدمی کیا نہیں ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے۔

اس روایت کو بیان کر کے ”منکرین حدیث“ کہہ دیتے ہیں کہ لیجئے! مولویوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ”معجزے“ کو تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث طیبہ پڑھنے سے واضح ہو جاتی ہے۔

بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

”دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے، جو مردوں کی سی شکل بنا کر زندوں سے کہیں گے، کہ مجھے تم پہچانتے ہو، میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مرچکے ہیں۔“ (ایضاً ص ۴۷ ”دجال فتنہ“)

الغرض اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اسی طریقہ سے کیا جائے گا، جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ و امریکہ میں آج کل مردوں کو حاضر کرانے اور ان سے ”مکالمہ“ کے مواقع ان مردوں کے زندہ عزیزوں کیلئے ”اسپرچیولیزم“ والوں کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے مسند احمد میں دجال ہی کے متعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے جس کا ایک جزء یہ بھی ہے:

”دجال“ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارے ماں، باپ کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دوں گا تو تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ دیہاتی کہے گا کہ اچھا، ایسا کر کے دکھاؤ۔ تب دو خبیث روئیں اس دیہاتی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی اور دیہاتی سے کہیں گی کہ اے میرے بیٹے! تم دجال کا ساتھ دو اور اس کی پیروی کرو، یہی تمہارا رب ہے۔

(کنز العمال ص ۴۰ ج ۲)

ملاحظہ: ایسے موقعہ پر یہ یقین کام آئے گا کہ يُحْيِي وَيُمِيت ذات صرف اللہ کی ہے باقی سب آنکھوں کا دھوکا ہے۔

## ایک عالم دین کی استقامت

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيمَا

يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَا أَيُّهَا الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ  
يَدْخُلَ نَقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلَ بَعْضَ السِّيَاحِ الَّتِي تَلِي  
الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ  
مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي  
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ  
فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتَهُ هَلْ  
تَشْكُونَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ  
وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ  
الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ.

(بخاری ص ۱۰۵۶، مسلم ص ۴۰۲، ج ۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک روز  
ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ نے دجال کے متعلق ایک لمبا  
قصہ بیان فرمایا جو کچھ آپ ﷺ نے بیان فرمایا اس میں یہ بھی تھا  
کہ دجال آجائے گا اور اس پر مدینہ کی سرزمین میں داخل ہونا  
حرام کر دیا گیا (وہ مدینہ کی وادی میں داخل نہیں ہو سکے گا) پس  
وہ ایک ریتلی زمین میں اترے گا جو مدینہ کے قریب ہے۔ اس  
دن ایک آدمی جو (مدینہ والے) لوگوں میں سب سے اچھا  
ہوگا، اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ  
تو وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے ہمارے پاس  
کیا۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا: ”تمہارا کیا خیال ہے، اگر  
میں اس شخص کو قتل کر ڈالوں اور پھر اسے زندہ کر دوں کیا تم  
میرے معاملے میں پھر بھی شک کرو گے؟“ وہ کہیں گے نہیں!  
پھر دجال اس (نیک آدمی) کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کر  
دے گا۔ پھر وہ شخص کہے گا: ”آج تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو

ہی (کجخت) دجال ہے، پھر دجال اسے مار ڈالنا چاہے گا، تو اسے اس کے مارنے پر قدرت حاصل نہ ہوگی۔ (یعنی وہ اسے مار نہیں سکے گا)۔

ایک روایت کے مطابق یہ شخص جو دجال کے پاس جائے گا، وہ مسلمان ہوگا اور بڑا نیک آدمی ہوگا اور لوگوں کو پکار کر کہے گا کہ یہی دجال ہے، جس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔

ملاحظہ علم دین میں پختہ لوگ ہی اپنے اور امت کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ان سے واسطہ نہ رہ سکیں تو مخالفت بھی نہ کریں!۔

ایک روایت میں ہے کہ دجال اس ”نیک شخص“ کو آڑے سے چروا ڈالے گا۔ ایک روایت میں ہے، وہ اس پاکباز شخص کو تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا۔ زندہ کرنا دجال کا مجزہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر کو مجزہ نہیں دیتا، یہ اس مقدس ذات کا فعل ہوگا جس کو وہ اپنے بندوں کو آزمانے کیلئے دجال کے ہاتھ پر ظاہر کرے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ شریعت کا کما حقہ پابند ہو اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف چلتا ہے اور وہ مردے کو بھی زندہ کر کے دکھلا دے اور اسے اپنی طرف منسوب کرے تب بھی اسے ناسب دجال تصور کرنا چاہیے۔

جو لوگ سچے خدا کو نہیں پہچانتے وہ دجال کی خدائی کے قائل ہو جائیں گے۔ جو لوگ سچے مسلمان ہیں اور اپنے حقیقی خدا کو پہچانتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک کرشمہ سمجھیں گے اور دجال اگر ایسے لاکھوں کرشمے کر کے دکھائے وہ تب بھی اسے خدا نہیں سمجھیں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ کسی کو زندہ کرنا اور مارنا خاص صفت الہی ہے مگر مومنوں کی آزمائش کیلئے یہ نشانی دجال کے ہاتھ ظاہر ہوگئی ہوگی۔

دجال مدینہ کے گرد و نواح میں آ کر ٹھہرے گا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ الدَّجَالُ حَتَّى

يُنزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ

رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ (بخاری ص ۱۰۵۵)

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا دجال (مشرق کی طرف سے خراسان سے) آئے گا اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں اترے گا۔ پھر مدینہ میں تین بار زلزلہ آئے گا اور تمام کافر اور منافق نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔

مضبوط ایمان والے مدینہ ہی میں رہ جائیں گے۔ وہاں سے باہر نہ آئیں گے، وہ سب شہروں میں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ان دونوں شہروں کی فرشتے حفاظت کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جس کو شیطان نہ روند ڈالے گا“، یعنی ضرور ہی روند ڈالے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ (میں داخل نہیں ہوگا) ان دونوں میں آنے کے جتنے راستے ہیں، ان پر فرشتے صف باندھے پہرہ دے رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ اپنے لوگوں پر تین مرتبہ لرزے گا اور اللہ تعالیٰ کافر اور ”منافق“ کو نکال باہر کرے گا۔

(بخاری ص ۲۵۳)

مدینہ کا زلزلہ گویا ان لوگوں کو اس مقدس شہر سے نکالنے کیلئے ہوگا، پھر اس طرف دجال اترے گا۔ فرشتے اس کا منہ ملک شام کی طرف کر دیں گے اور وہاں وہ ہلاک ہوگا۔

(مشکوٰۃ)

ملاحظہ: بچے! ان فتنہ پردازوں سے جو کہتے ہیں حض اور عمرہ مکہ میں ہوتا ہے مدینہ اور روضہ رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرہ دار ہوں گے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا

## الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ.

(بخاری ص ۱۱۱۳، ۱۰۵۶، ترمذی ص ۲۴۹، مسلم ص ۴۴۲ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر (بطور پہرہ دار) فرشتے (مقرر) ہیں۔ اس (شہر) میں نہ طاعون آئے گا نہ ہی دجال داخل ہوگا۔

دوسری روایت میں یوں ہے:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا

الدَّجَالُ فَيَجُذُّ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا

الدَّجَالُ، قَالَ وَلَا طَاعُونٌ أَنْشَاءَ اللَّهُ (بخاری ص ۱۰۵۶)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دجال مدینہ کی طرف آئے گا۔ وہ فرشتوں کو وہاں پہرہ دیتے ہوئے پائے گا تو دجال مدینہ کے پاس نہیں جاسکے گا۔ اسی طرح طاعون بھی (اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا) تو مدینہ نہ آسکے گی۔

یہ سرور کائنات ﷺ کے روضہ مبارکہ کی برکت ہے کہ ان بلاؤں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے، مدینہ منورہ محفوظ رہے گا۔ طاعون جیسا مرض اور دجال جیسا مکار مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ طاعون، جس سے ہزاروں افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب ﷺ کے شہر کو اس سے محفوظ رکھا ہے، گویا مدینہ جسمانی بیماری سے بچاؤ کی جگہ بھی ہے، اللہ نے اسے سب سے بڑی روحانی بیماری یعنی ”فتنہ دجال“ سے بھی بچایا ہے اور جو لوگ مدینہ سے محبت رکھتے ہوں گے وہاں جا کر اپنے ایمان کو بچالیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے اس شہر کو کوئی خاص حیثیت نہیں دی ہے۔ وہ محروم ہی رہیں گے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔

لَا يَأْتِي أَرْبَعُ مَسَاجِدَ الْكُفْبَةِ. وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ

والمسجد الاقصیٰ والطور. (مسند احمد، فتح الباری ۱۰۵/۱۳)

کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور پر شیطان نہ جاسکے گا۔

لیجئے! مسجدوں سے محبت دن رات ان کے آباد کرنے کی فکر اور دجالی شعبہ باز یوں سے بچنے اور ایک اللہ پر مکمل یقین و اعتماد، اس کی راہ میں نکل کر دینی ادارے بنا کر۔ دجالی فتنوں سے دوری کے اسباب پر غور کون کر رہا ہے؟

صدائے بازگشت کدھر سے سنائی دے رہی ہے؟

تھوڑی سی محنت اور غور سے معمہ حل ہو جائے گا اور اس فتنے سے نجات کی راہیں ہموار ہوتی نظر آئیں گی۔

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆

☆



## مذہبی چیزوں کے اسلامی احکام و مسائل

اسوۂ رسول اکرم ﷺ	خواتین کا مسنون طریقہ نماز
اسلامی سیاست	رائجہ زکامشرہ
امہات المؤمنین	روزہ بھرنے کی بیماری
انسانیت صحت کے روزہ سے پ	روزانہ کے معمولات
انکار برین کی پیشگی فکر کرنی	سال بھر کے مسنون اعمال
انسان اور اس کا بھڑکنا	حیرت و صورت - علم اللہ کا نام
اسلامی بیماریوں کی علامتوں میں لگنا	عمل بھرتو رب راہ
اصلاح نفس اور پیشگی برامت	علم بھرتو
اورادو و دعا تک	علامت توحید - اللہ کے
اعمال مسیہ	عورتوں کی نماز
آفریت کے لگنے والے کے 50 پھاس تھے	فکر آخرت و مقام آخرت
پاکت و دعا تیں	فحاشی و چہ نمبر
اللہ کی پناہ تیں	فجر کی کئی رات
بھڑکنا	کاسب انسان
سے نمازی تمام ہیرت	گھنڈا کمرہ
پاکیزہ زندگی پاکیزہ اعمال سے ملتی ہے	محمد بن مہدی سے محمد رسول اللہ تک
تعلیمی کام کے اہم اصول	مذہبی علماء و مذہبی بیوی
تعلیمی کام کی حیثیت	سوت کی بی
تعمیر و ترمیم	مشورہات کی عقلی کامیابی کا راز
ٹی وی کی تباہ کاریاں - ٹی وی اور طباق قر	مشورہات اور دین کی منت
جنتی عورت	مرنے کے بعد کیا ہوگا؟
بنت کا آسان راستہ	مذہبی زندگی
چراغ کار و عورتیں	کلام قدرت
حقیقی زندگی	نمازیں سنت کے مطابق پڑھنے
طبقات کبیل	نماز جمعہ پر نمبر
عالم برادری و مذہبی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں	نمازیں اور بے نمازی میں ان میں
عراق کی سنت	دوسرے سنت کچھ
عراقی کا جواب	عراقی نماز میں بعض اہم کتابیاں

پوسٹ باکس نمبر 7356983

7356983

عمومی کیشنز